

شرح
أصول الإيمان
" نبذة في العقيدة "
باللغة اللوغندية

**OKUNNONNYOLA
EBIKOLO Y'OBUKKIRIZA
MULULIMI OLUGANDA**

لفضيلة الشيخ:
محمد بن صالح العثيمين

**KYAWANDIIKIBWA:
SHEIKH: MUHAMMAD BUN SWALEH
AL UTHAIMEEN**

**KIVVUUNUDDWA:
FAROOQ ABDULNOOR NTANDA.**

**KIKAKASIDDWA:
SHK: ABDULRAHMAAN IBRAHIIM
MUKISA.**

الطبعة الأولى

1410هـ

EBIRI MUKITABO KINO.

OMUTWE

OLUPAPULA

| | |
|--|----|
| 1- Ennyanjula..... | 4 |
| 2- 2- Eddiini y'obosiraamu..... | 6 |
| 3- Empagi z'obusiraamu..... | 11 |
| 4- Emisinji jenzikiriza y'obusiraamu..... | 15 |
| 5- Okukkiriza Allah..... | 16 |
| 6- Okukkiriza bamalayika..... | 32 |
| 7- Okukkiriza ebitabo..... | 37 |
| 8- Okukkiriza Ababaka..... | 39 |
| 9- Okukkiriza olunaku lwenkomerero..... | 46 |
| 10- Okukkiriza okugera..... | 64 |
| 11- Ebigendererwa byenzikiriza y'obusiraamu..... | 75 |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ENNYANJULA

Mazima amatendo amalungi, amajjuvu ga Allah owekitiibwa nanyini buyinza, tumutendereza, netumusaba okutuyamba, netumwenenyeza era netumusaba okutusonyiwa, twewogoma jaali okuwona obubi bw'emyoyo jaffe n'emirimu jaffe emibi, oyo yenna Allah gwaba alungamizza teri ayinza kumubuza ate negwaba abuzizza teri ayinza kumulungamya, njatula n'olulimi lwange nenkakasa n'omutima gwange nti tewaliiwo asiinzibwa mubutuufu okujjako Allah yekka, era nga talina kimwegattako mubufuzibwe nemukuteekerateekera ensi eno, Era nkakasa nti mazima Nabbi Muhammad (emirembe n'okusasira kwa Allah bibeere kuye) muddu we era mubaka we. Nensaba Allah asaasire abenyumba ye wamu ne baswahaba be nabuli yenna abagoberera mukkola n'okulagirira empisa ennungi okutuusa Allah lwalizingako ensi eno.

Mazima okumanya okwawula Allah mukumusiinza (Tawuhiid) kwekumanya okusingayo okuba okwekitiibwa n'okuba muddaala eryawaggulu, n'okuba nga kyatteeka eri buli muntu okukunoonya, kubanga kwekukumanyisa Allah mubutuufu bwokumumanya, mumanyage n'ebitendo bye wamu ne byabanja abaddu be okumukolera.

Olwokuba nga okwawula Allah kyekisumuluzo ky'ekkubo erikutwala gyali, era nga gwemusingi okuzimbibwa ebiragiroye n'amateekaage, yensonga lwaki ba Nabbi bonna begatta mukukowoola okwawula Allah mukumusiinza. Allah y'agamba mu Qura'n eyekitiibwa, nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ٢٥

﴿الأنبياء: ٢٥﴾

{Tetwatuma luberyeberyelwo mubaka yenna (eri abantu) okujjako twamuwanga obubaka obugamba nti tewaliiwo atekeekeddwa kusiinzibwa mubutuufu okujjako nze (Allah) bansiinze }

Bwatyo Allah yekakasaako obw'omu bwe (obwanamunigina) mukusiinzibwa, bwekityo nebamalayikabe bajulira kyekyo, bwebatyo nebannanyini kumanya. N'agamba nti

قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١٨

{Allah ajulira nti mazima ddala tewaliiwo kisiinzibwa mubutuufu okujjako ye, nebamalayika be bajulira kwekyo, bwebatyo nebanannyini kumanya, ayimiridde kubwenkanya (okubanga yasiinzibwa) tewaliiwo kisiinzibwa mubutuufu okujjako ye owekitiibwa ateeka buli kintu mukifo kyakyo }

Okwawula Allah bwekuba nga kulu bwekutyo kiba kifuisse kyatteeka eri buli musiraamu okufaayo ennyo okusoma tawuhid (okwawula Allah mukumusiinza) n'okumusomesa, n'okumwekenneenya wamu nokumukkiririzaamu, asobole okuzimba enzikirizaye kumusingi omutuufu Era omulamu, n'okutebenkera (mumutima), kubanga obulamu n'obutuufu bw'omusingi bukuwa okwesiima n'ebibala ebiruungi.

EDDIINI Y'OBUSIRAAMU.

Obusiraamu yeddiini Allah gyeyatuma nayo omubaka Muhammad (s.a.w) nafundikira nayo eddiini zonna, era nagijjuliza abaddube, najjuza nayo gyebali ebyengeerabye, byatwo nagibasiimira okubeera eddiini yabwe, era Allah takkiriza ddiini ndala yonna kumuddu we etali yabusiraamu. Allah y'agamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ الأَحْزَابُ: ٤٠

{ Muhammad (s.a.w) tabeerangako kitaawe w'omu mubasajja mumwe, wabula mubaka wa Allah, era ye wenkomerero muba Nabbi, Allah kubuli kintu kyonna mumanyi }

Era Allah n'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾ الْمَائِدَةُ: ٣

{ Olwaleero mbajjulizza ediini yamwe, era nenzijuza kumwe ekyengera kyange, Era nembasiimira Obusiraamu okuba nga ye ddiini yamwe }

Era Allah n'agamba nti:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٩﴾ آل عمران: ١٩

{ Mazima ediini emanyidwa ewa Allah bwebusiraamu }.

Era n'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ آل عمران: ٨٥

{Oyo yenna anoonya ekitali busiraamu okubeera eddiini ye, tegeenda kukkirizibwa kuye, era kunkomerero agenda kubeera mubafafaaganidwa }

Era Allah y'alaalika kubantu bonna okumusiinziza mubusiraamu n'akowoola omubaka Muhammad (s.a.w) n'amugamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَّيِبُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٨

{Gamba (gwe Muhammad "s.a.w") abange mwe abantu Mazima ddala nze ndi mubaka wa Allah eri mwe mwenna, oyo alina obufuzi bwamagulu omusaanvu ne nensi, tewaliiwo asiinzibwa mubutuufu okujjako ye, y'awa obulamu era y'afiisa, Mukkirize Allah n'omubaka we, oyo Nabbi atasobola kusoma biwandiiko wadde okuwandiika, oyo akkiririza Allah n'amateekaage, Mumugoberere lwemujja okulungama }.

Ate mukitabo kya musirimu, hadith nga eva ku abu hurairah (Allah yasiima kuye) nga agijja kumubaka wa Allah y'agamba nti:

(والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)

(Ndayira (Allah) oyo alina omwoyo gwange mumukono gwe, tewali noomu ampulirako mubantu b'ekibiina kino kyennatumwaamu (Ummat daawa), kaabe muyudaaya oba mukulisitaayo, oluvannyuma n'atukibwako okufa nga takkiririzza ebyo byenatumwa nabyo okujjako abeera wamubantu bomumuliro).

N'okukkiririza Nabbi (s.a.w): kwekukasa nti byonna byeyajja nabyo by'amazima wamu n'okubikkiriza, nokibikolerako, sossi kukkiririza bukkiriza nti byamazima nga tobikolerako. Nolwensonga eyo Abu twalibu (taata wa Nabbi omuto) teyali mukkiriza wa Nabbi (s.a.w) newankubadde nga yali akakasa nti Nabbi byeyali ayogera g'ali Mazima, n'okukakasakwe nti Obusiraamu yeddiini esinga obuluungi.

Eddiini y'Obusiraamu: ejjudemu emigaso n'ebiruungi byonna ebyali mumadiini amalala agasooka, naye ate yo enkizo jerina kugo gonna, kwekuba nti etuukagana nabuli mulembe, nabuli kifo kyonna era nabuli kitundu, Allah yakowoola omubaka we Nabbi (s.a.w) n'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۝

المائدة: ٤٨ ﴿٤٨﴾

{Twassa gyooli ekitaboo (Qura'n) mumazima, era nga kijjudde mazima, nga kikakasa ekitaboo ebyo ebyakikulembera (nga tawraat ne njiri) era nga kiramuzi ekisengezzi kubyoo }

N'amakulu agali mukuba nti Obusiraamu butuukagana nabuli mulembe, nekifo, nabuli kibiina kyabantu: kwekuba nti okubwekwatako tekigaana migaso nabiruungi okuyimiridde obulamu bwabantu, mubuli mulembe nemubuli kifo nemubuli kibiina kyonna. Wabula butambulira wamu nabyo, newankubadde ekyo tekitegeeza nti Obusiraamu bwebuli wansi wabyo (nga bwebubigoberara), nga abantu abamu bwebaagala kibeere.

Era eddiini y'Obusiraamu: yeddiini eyamazima eyo Allah jeyaweerako obweyamu okutaasa oyo yenna asalawo okujeekwatako mubulikimu, Era nga yeeyama okujoolesa okubeera waggulu w'enzikiriza endala zonna. Era yensonga lwaki Allah y'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾﴾
 الصف: ٩

{Ye yooyo eyatuma omubaka we n'obulungamu wamu neddiini ey'amazima alyoke ajiwanguzise era agyolese kudidiini zonna endala ezisigadde newankubadde nga abagatta ku Allah bakitamwa}.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾ النور:
 ٥٥

{Allah yalaganyisa abakkiriza mumwe era nebakola emirimu emiruungi, nti ajja kubasikiriza ddala ensi eno (babe nga bebafuli muyo) nga bweyagisikiza ababasooka, Era ajja kubatebenkereza eddiini yabwe (busiraamu) eyo jeyabasiimira, Era ajja kubakyusiza okutya kwabwe n'obunkeke bifuuke mirembe myereere, bansiinze nga tebangattako kintu kirala kyonna, Nayenna an'ampakanya oluvanyuma lwebyengera ebyo, abo bebajeemu abonoonefu}.

Eddiini y'Obusiraamu: Nzikiriza n'amateeka (sharia), era nga nzijuvu munzikiriza yaayo nemumateeka gaayo n'ebyobulamuzi.

1. Eragira okwawula Allah mukumusiinza n'okumutongoza era n'egaana okumugattako ekintu ekirala kyonna.
2. Eragira okwogera amazima era n'eziyiza obulimba.
3. Eragira obwenkanya ate n'egaana obulyazamaanya, nga obwenkanya buzingiramu n'okuteeka awamu ebifaanagana n'okwawula ebitafaanagana, nga era Obusiraamu bwawula wakati w'obwenkanya n'omwenkanonkano.

4. Eragira obwensimbu era n'egaana obukumpanya.
5. Eragira okutuukiriza era n'egaana okwawukana kundagaano.
6. Eragira okuyisa obuluungi abakadde era n'egaana okubajeemera nokubayisa obubi (wadde okubekaanya).
7. Eragira okuyunga enganda, nga n'abo beebo betulinako oluganda (olwokumpi newala). Era n'egaana okukutulawo oluganda.
8. Eragira okuyisa obuluungi mulirwaana, era n'egaana okumuyisa obubi (nga okola ebimunyiiza).

N'ekigambo ekibuna byonna: Obusiraamu bulagira empisa zonna ennungi era nebuzyiza empisa embi ezitali zamubantu.

Era nebulagira buli mulimu omuluungi, nebugaana buli mulimu omubi, Allah y'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٩٠

{Mazima ddala Allah alagira obwenkanya, n'okwesiya obuluungi, n'okuwa abenganda, Era n'agaana obwonoonefu, n'ebitasaana, n'okulumbagana ebitonde (okwembeera zonna), ababuulirira (abalagira era nabazyiza) mulyoke mwebulirire }

EMPAGI Z'OBUSIRAAMU.

Empagi z'Obusiraamu: Gyemisingi gyabwo kwebuzimbidwa, Era nga ziri taano, z'ayogerwa mubigambo bya Nabbi " s.a.w" (Hadith) ebyatunyumizibwa swahaba ayitibwa ibn umar (okusaasira kwa Allah kube kubombiriri) nti Nabbi (s.a.w) yagamba:

" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمدا عبده ورسوله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضان, والحج " فقال رجل : الحج وصيام رمضان؟ قال: لا, صيام رمضان, والحج, هكذا سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم " متفق عليه, واللفظ لمسلم.

(Obusiraamu bwazimbibwa kumpagi taano, okukakasa nokujulira nti tewaliiwo kisiinzibwa mubutuufu okujjako Allah, n'okakasa nti Nabbi Muhammad mudduwe era mubakawe, n'okuyimirizaawo eswallah ettaano buli lunaku, n'okutoola zakkah mummaali yo, n'okusiiba omwezi gwa ramadhan, n'okulambula enjumba ya Allah eyemizizo (okukola hijja)) omusajja kyava abuuza okkola hijja nokusiiba? n'amuddamu, nti nedda okusiiba n'okkola hijja bwetyo bwennawulira omubaka wa Allah nga agamba, hadith yegattibwako Bukhari ne musirimu, nga enjatula eno ya muslimu.

1: Okukakasa nokujulira nti tewali asinzibwa mubutuufu okujjako Allah. Era n'okukakasa nti Nabbi Muhammad (s.a.w) muddu we era mubaka we: kwekukiriza mumutima, n'obumalirivu, okwolesebwa n'olulimi nga omuntu mubumalirivu bwe mukukkiriza alinga alaba kukyakkiririzaamu, okukakasa nokujulira kuno kwafuulibwa Empagi emu newankubadde nga ebijulirwa bisukka mukimu.

Ekyo nga kiyinza okuba nga kiva kunsonga nti; lwakuba Nabbi Muhammad obubaka bwatutusaako abujja ku Allah, nekiba nti okujulira nti muddu era mubaka wa Allah, kitundu ekijjuuliriza

okujulira n'okukakasa nti tewali kisinziibwa mubutuufu kyonna okujjako Allah.

Oba okuba nti okujulira (okwemirundi ebiri) nti Allah yekka yalina okusiinzibwa, ne Nabbi Muhammad okuba omuddu we era omubaka we, gwemusingi oguzimbidwako okutuukirira kwemirimu jetukola n'okujjikiriza. Kubanga omulimu gwonna tegusobola kuba mutuufu era mutuukirivu wadde okukkirizibwa okujjako nga gukoledwa ku lwa Allah wamu n'okubanga gukwatagana n'enjigiriza y'omubaka Muhammad (s.a.w). Nekiba nti okukola omulimu kulwa Allah kituukiriza okukakasa nokujulira nti tewali asinzibwa mubutuufu okujjako Allah. Era n'okkola omulimu okusenziira ku njigiriza y'omubaka (s.a.w) kituukiriza okujulira nti Muhammad muddu we era mubaka we.

Ebimu kubibala byokujulira nti Allah yasinziibwa yekka wamu ne Nabbi Muhammad okuba omubakawe; kwekununula omwoyo n'omutima gw'omuntu okuva mubuddu bwebitonde, n'okuwona okugoberera abo abali ba Nabbi okuva ewa Allah (banabbi abobulimba).

2: ate okuyimirizaawo eswala; kwekusiinza Allah n'ebikolwa byayo (eswalah) mumbeera eyobwesiimbu, mubujjuvu, mubiseera byayo, nemungeri jeyalaalikwamu.

N'ebimu kubibala by'okuyimirizaawo eswalla; okubeera nekifuba ekyanjulukufu, ekitangira okukola ebyonoono, n'ebitamwa.

3: Ate Okuwa zakka: kwekusinza Allah nga otoola ekigero ekyetteeka mubyobugagga byo ebiwebwamu zakkah n'okiwa eri bannanyini kyo.

Mubibala byokuwa zakka: okutukuza omutima okuva mumpisa embi eyobukodo, nokumala ebyetaago by'Obusiraamu n'Abasiraamu.

4: Ate okusiiba ramadhan: kwe kusiinza Allah nga oleka byonna ebisiibulula emisana mu Ramadhan (nga okulya n'okunywa nebyobwagazi).

Mubibala by'okusiiba; Okumanyiza omutima okulekayo ebyo byegwala olwokwagala okusiimibwa Allah.

5: Ate okukola hijja: kwe kusinza Allah n'ogenda kunyumba ye eyekitibwa (Kaaba) n'oyimirizaawo emikolo gya hijja.

Ebimu kubibala byo kkola hijja: Okumanyiza omutima okuwaayo sente n'omubiri mukusiinza n'okugondera Allah. Era eyo yensonga lwaki hijja gumu kumiteeko jokulwana mukubo lya Allah (jihaad).

Ebyo ebibala byetwogeddeko, nebyetutayogeddeeko kumisingi gino, bifuula ekibiina (Ummah) okuba nga Kisiraamu, kitukuvu era nga kiyonjo, kisiinza Allah muddini entukuvu entuufu eyamazima, n'okkolagana n'ebitonde mumazima n'obwenkanya, kubanga byonna ebitali misingi gino mumateeka g'obusiiramu biloongoka nokuloongoka kw'emisingi gino, n'embeera z'abantu ziloongoka lwakuloongoka kwa mbeera yanzikiriza yabye, Era abantu basubwa okuloongoka mumbeera zaabwe okusiinzira nga bwebaba basubidwa okuloongoka kwenzikiriza yabwe.

N'ayagala okunyonyoka obuluungi ensonga eno asome etteeka lya Allah erigamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُرْحِي وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

{Singa bannanyini byalo bakkiriza Allah n'omubaka we era nebagondera amateekaage, twandigguddewo jebali emikisa

(ebiruungi) okuva muggulu nemunsi, naye b'alimbisa Allah nababaka be, netubabonereza olwebyo byebaali bakola, Abaffe bannanyini byalo tebatidde kubanga bakkibwako ebibonerezo byaffe ekiro nga nabo beebase, oba abaffe tebatidde bibonerezo byaffe kubakkako mubiseera ebyenkya nga bali mubyaabwe, abaffe balowooza nti bagenda kuwona enkwe za Allah (nga abatwaliriza nebyengeraabye, ngabweagenda mumaaso n'okumujeemera), tewali atatya nkwe za Allah okujjako abo abafafaaganirwa }.

Kyabadde kiruungi omusiraamu atunuleko mubyafaayo byabatusooka, kubanga ebyafaayo ebyo bilimu ebyokuyiga eri abo abalina okutegeera era birimu n'okulungamizibwa eri oyo Allah gwataateeka nnumbo kumutima gwe. Tusaba Allah atubeere.

EMISINGI GY'ENZIKIRIZA Y'OBUSIRAAMU

Eddiini y'Obusiraamu nga bwetwakirabye mukusooka, nzikiriza wamu n'amateeka n'ebiragiyo, Era netunokonako kugamu kumateeka gaayo, netulaba empagi zaayo ezitwalibwa okuba nti gyemisingi okuzimbidwa amateeka ago.

Naye ate enzikiriza y'obusiraamu, emisingi gyayo: kwekukkiririza nti Allah (asiinzibwa) alyomu, n'okukiriza bamalayika be, nebitabo bye, n'ababaka be, nokukkiririza olunaku lwenkomerero, n'okugera kwe ekiruungi nekibi.

Emisingi gino girina obujulizi okuva mu Qura'n eyekitiibwa wamu nemunjigiriza y'omubaka Muhammad (s.a.w).

Obujulizi okuva mu Qura'n, Allah y'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ البقرة: ١٧٧

{Tekuli okkola obuluungi mukwolekeza ebyenyi byamwe eri ebuwanjuba nebugwanjuba, naye okkola obuluungi, kuli kwoyo yenna akkiriza Allah, n'olunaku lwenkomerero, neba Malayika, n'ekitabo (Qura'n), neba Nabbi }

Era Allah n'agamba kukugera nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ القمر:

٥٠ - ٤٩

{Mazima buli kintu kyonna twakitonda n'enteekateeka yakyo, era tekuli okusalawo kwaffe (byetuba twagadde okutonda ekintu kyonna) okujjako nga bw'olaba olutemya lweriiso }

Ate okuvaako mubigambo bya Nabbi (hadiith), owekitiibwa (okusaasira nemirembe bibeere kuye) bweyali nga ayanukula ebibuuzo ebyamubuuzibwa Malayika jibriir kubukkiriza y'agamba nti:

"الإيمان أن تؤمن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسوله, واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره " رواه مسلم.

(Obukkiriza, kwekukkiriza Allah nti alyomu nokukkiriza nti yasiinzibwa mubutuufu, nebamalayika be, nebitabo bye, n'ababaka be, n'olunaku lwenkomerero, n'okukkiriza okugera kwe obuluungi bwaakwo nobubi bwako). Hadith yatunyumizibwa musirimu.

OMUSINGI OGUSOOKA: OKUKKIRIZA ALLAH OWETIIBWA.

Okukkiriza Allah kuzingiramu ebintu bina:

Ekisooka: okukkiriza okubaawo kwe, era nga okubaawo kwe kulina obujulizi bwamirundi ena, obubumbwa, amagezi, obubaka obwassibwa ukuva eri Allah n'omubaka we, okubaawo kwebitonde ebirabwako.

1: obujulizi by'obubumbwa kukubaawo Kwa Allah: Mazima buli kitonde kyatondebwa kububumbwa obwokukkiriza omutonzi, nga tekisoose kulowooza nnyo kwekyo wadde okuyigirizibwa, era tewali ava kububumbwa obwo okujjako oyo aba afunye okubuzaabuzibwa mumutima gwe, oba okufuna ekintu ekirala nekimuwugula n'abuvaako.

Nabbi (s.a.w) yagamba:

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه, أو يمجسانه" رواه البخاري.

(Tewali mwana yenna azaalibwa okujjako nga azaalibwa kububumbwa (bw'obusiraamu, nokwawula Allah) naye bakadde be bebamufuula owenzikiriza eyekiyudaaya oba eyekikulisitaayo oba asiinza omuliro (nebirara ebiringa ebyo)). Hadith ya bukhari.

2: Ate obujulizi obwamagezi (kukubaawo Kwa Allah):

Kubanga ebitonde muntandikwa tebyaliwo, kati oluvannyuma lw'okubeerawo, amagezi galaga nti watekeddwa okubaawo eyabitonda, kubanga tewali kintu kisobola kwetandika wo, oba okubeera wo nga tekirina akitaddewo.

Tekisoboka kintu kyonna kwetandika wo kubanga tewali kintu kisobola kwetonda kyo kyennyini, kuba nga tekinnazuulibwa tekyaliwo, kaakati ekitaaliwo kiyinza kitya okubeera omutonzi?!

ate era tekisoboka kubeera wo bubeezi nga tewali akitaddewo, kubanga tewali kubeera wo okujjako nga waliwo akitaddewo, kubanga n'okubeera wo kwakyo kwatandikibwawo butandisi, ate n'akakwate akali wakati wokubeera wo kwebintu nesonga ezibireetera okubeerawo kooleka buluungi nti tewali kisobola kubeera wo okujjako nga waliwo akitaddewo era nga ye Allah omutinzi wabuli kintu.

Kyova olaba Allah yagamba mu Qura'n kubujulizi obulaga nti amagezi galagirira okubeerawo kwe:

" قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ الطور: ٣٥

{Abaffe balwooza nti baatwondwa nga tewaliiwo yabatonda, oba bbo bebeetonda?!}. Nekyeyoleka buluungi nti omutonzi wabwe ye Allah eyayawukana mubiriwo byonna.

Nolwensonga eyo jubair ibn mutwi am bwe yawulira Nabbi (s.a.w) nga asoma sulati al twuur n'atuuka ku aya ezo:

قَالَ تَعَالَى: ﴿۳۵﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا

يُوقِنُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطُونَ ﴿۳۷﴾ الطور: ٣٥ - ٣٧

{ Abaffe balowooza nti tewali yabatonda, oba bbo beebetonda, abaffe oba balowooza nti bebaatonda amagulu omusaanvu nensi, oba beebalina amawanika g'okusaasira kwamukamaawo, oba bbo beebalina obuyinza kugo (nga basalawo nebawa gwebagadde nebamma gwebagadde.) }

Mukiseera ekyo jubair yali simusiraamu, naye atunyumiza n'agamba nti bweyawulira ebigambo ebyo nga Nabbi (s.a.w) abisoma yawulira nga omutima gwe gwagala kubuukamu guveemu, Era nga yeyali entandikwa y'obukkiriza okutebenkera mumutima gwe.

Ekyokulabirako ekyangu kwekyo singa munno okunyumiza nga bweyalabye olubiri olwazimbwa obuluungi era nga lwetoolodwa emalimiro nga gayitamu emigga, nga lulimu ebitanda ebyaliridwa obuluungi, nga luwundiddwa nebyokwewunda ebyenjawulo. oluvanyuma n'akugamba nti olubiri olwo nabuli kyonna ekirulimu mubujjuvu bwabyo lwerwetandikawo oba okuba nga lwasangibwawo nga tewali alutadde wo, oyanguwa okugaana n'okumulimbisa, era emboози gyakunyumirizza n'ogitwala nti temuli makulu, naye olaba oluvanyuma lwebyo ensi eno engazi bweeti, neggulu lyako, nebitonde ebirimu, n'embeera jebirimu, n'enkulakulana eyaamanyi egirimu, esobola okubeera nga yeyeetandikawo nga tewali agitadde wo?!

3: Obujulizi obuva mu Qura'n ne sunnah: ebitabo byonna ebyassibwa okuva eri Allah bilambika buluungi okubeerawo kwe, era nga amateeka agabirimu galiwo kulwabuluungi bwabitonde, kabonero akalaga nti gaava wa mutonzi (Allah) omukenkufu, Omumanyi webyo ebisinga okuba ebiruungi eri

ebitonde bye, era nga ebitunyumizibwa ebigakwaata kungsi n'ebigirimu ebirabwako ebyamazima kabonero akalaga nti byava eri omulezi era omutonzi alina obusobozi okutandikawo ebyo byeyayogerako.

4: obujulizi kukubaawo Kwa Allah olwokubaawo kwebitonde: buli mumbera ya mirundi ebiri.

Esooka: Mazima ddala tulaba era netuwulira okwanukulwa kwabasaba, n'okutaasibwa kwabalaajana nga bujulizi bwankukunala obulaga okubaawo kwe, Allah yagamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ﴿٧٦﴾ الْأَنْبِيَاءُ: ٧٦

{Era jukira Nuuh bweyakowoola (bweyasaba) oluberyeberye (Iwo gwe Muhammad) netumwanukula}.

Era nagamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ ﴿٩﴾ الْأَنْفَالُ: ٩

{Era jukkira ekiseera bwemwalaajanira omulezi wamwe (nga mumusaba okubataasa), n'abaaanukula}.

Mukitabo kya bukhari hadiith nga ejjibwa ku anasi ibn maalik okusaasira Kwa Allah kube kuye yagamba nti:

"إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلك المال, وجاع العيال, فادع الله لنا, فرفع يديه ودعا فتار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية, قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء, وغرق المال, فادع الله لنا, فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا, فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت"

(Mazima omusajja munnamalungu yayingira kulunaku lwejjuma nga Nabbi (s.a.w) asoma khutuba, nagamba: owange omubaka

wa Allah, emmali ezikiridde, abantu nebagwamu enjala, tusabireko ku Allah, Nabbi n'awanika emikono gye n'asaba Allah, ebire nebikyukirawo nebibanga bwolaba ensozi, era yali tanakka kuva kukituutikye enkuba n'etandika okutonya nekulukutira ne kukirevu kye. ate ejjuma eyaddako, omusajja munnamalungu yoomu oba omulala atali ye yayimuka nagamba: owange omubaka wa Allah, ejumba zaffe zigudde, nemaali n'ebbira mumazzi, tusabireko ku Allah, era Nabbi nawanika emikono nagamba nti " ayi Allah tukusaba enkuba ogikyuse ogitonnyese mubitundu ebirala ebitaliimu bantu era tewali ludda lweyasonga ko okujjako nga evaawo)

Era okwanukulwa kwabo abasaba n'okukowoola Allah kimu kubintu ebirabwako n'okutuusa essawa ya leero eri abo ab'asalawo okuba ab'amazima mukuddukira eri Allah kunsonga zabwe zonna era nebatuukiriza obulombolombo bw'okwanukulwa.

Eyokubiri: Mazima obubonero bwaba Nabbi obuyitibwa ebyamagero, abantu bwebaalabako, oba nebabuwulirako, bujulizi obwenkukunala obulaga nti waliwo eyabatuma nga naye ye Allah, kubanga ebyamagero ebyo byali bintu ebili ebweru wobusobozi bwabantu, Allah yabubayisizaako, mumbeera oy'okuwa amaanyi n'okuwagira ababaka be n'okubataasa.

Ekyokulabirako kwekyo, kyekyamagero kya Nabbi muusa (a.s.w) mukiseera Allah byeyamulagira akube omuggo gwe ku Nyanja. Nagukubako, enyanja neyeyasaamu amakubo amakalu kumi naabiri (12) nga amazzi gali ebbali waago nga ensozi. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَمَا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

الشعراء: ٦٣ ﴿٦٣﴾

{Netubikkulira Muusa, netumugamba nti akube omuggo gwe kunyanja, (Nagukubako) enyanja neyeyasaamu amakubo kumi n'abiri era buli kitundu ekyeyasaamu nekibanga olusozi olunene }.

Ekyokulabirako ekyokubiri: bwebubonero oba embyamagero bya Nabbi Isa (a.s.w), bweyali nga azuukiza abafu nabajja mutaana kulwobuyinza bwa Allah, Allah yagamba kulwa Isa nti:

﴿ وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ٤٩ ﴾ آل عمران: ٤٩

{Era nzuukiza abafu kulwobuyinza bwa Allah }.

﴿ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ ١١٠ ﴾ المائدة: ١١٠

Era Allah nagamba Nabbi Isa: {Era jukkira bwewazuukizanga abafu kulw'obuyinza bwange }

Ekyokulabirako ekyokusatu: kya Nabbi Muhammadi (s.a.w) mukiseera aba quraish bwebaamusaba akabonero akalaga n'okukakasa nti Nabbi wa Allah, n'asonga ku mwezi negweyasaamu ebitundu bibiri abantu nebagulaba, Allah yagamba kusonga eyo:

﴿ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ۗ ١ ﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۗ ٢ ﴾

﴿ القمر: ١ - ٢ ﴾

{Enkomerero esembedde, omwezi negweyasaamu, naye abantu nebwebalaba akabonero konna bakeesamba nebagaamba nti eryo ddogo erigenderera }.

Obubonero obwo obulabwako Allah bweyayisiza kubabaka be, mumbeera yokukakasa obwa Nabbi bwabwe, n'okubataasa, bujulizi obweyolefu nti Allah gyali.

Ekyokubiri: Okukkiririza obulezi bwe. (Okukkiriza nti Allah alyomu yemulezi, talina kimwegattako mukusiinzibwa, wadde okuba n'omuyambi mukuteekateeka ensi n'eggulu).

Omulezi: yooyo atonda ebitonde, alina obwakabaka n'obufuzi obwawaggulu, Era alina ekiragiro ekisembayo kungsi neggulu wamu n'okubiteekateeka, tewali atonda bitonde okujjako Allah, Era tewali alina bufuzi bwabuli kintu kyonna n'abwakabaka busembayo waggulu okujjako ye, era tewali alina kiragiro kyankomeredde okujjako ye.

Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ٥٤﴾ الأعراف: وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ١٣﴾ فاطر: ١٣

{Kukwe (Allah) okutonda n'okuwa ebiragiro }

Era n'agamba: {Oyo ye Allah omulezi wamwe, bubwe obufuzi bwabuli kintu kyonna, n'abo bemusiinza abatali ye, tebalina bufuzi kukantu konna, wadde akasembayo okuba akatono }.

Era teli kitonde kyonna kimanyidwa kuba nti kiwakanya obulezi n'okutonda Kwa Allah, okujjako okuba nti kyekaza bwekaza naye nga kikakasa mumutima gwakyo nti Allah yeyatonda buli kimu, nga bwekyatuukawo ku falaawo byeyagamba abantu be nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ٢٤﴾ النازعات: ٢٤

{Nze katonda wamwe owaawaggulu, (musa gweyabadde ateggeza)}

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ٣٨﴾ القصص: ٣٨

Era (falaawo) n'agamba: { abange abantu bange sibamanyiddeeyo katonda mulala atali nze }.

Newankubadde falaawo yabyogera naye yali tabikkiririzaamu.
Allah y'agamba:

” قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۗ ﴿١٤﴾ النمل: ١٤ ”

{Nebawakanya (falaawo nebanne) obubonero obulaga okubeerawo kwa Allah, naye nga emyoyo gyabwe gisigadde gikakasa nti byebalimbisa bituufu, mukukola ekyo nga bulyazamaanyi (eri katonda wabwe n'eri emyoyo gyambwe) nakwekuza kumazima nekubitonde }.

Era musa n'agamba falaawo nga Allah bwatunyumiza:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَابِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۗ ﴿١٠٢﴾ الإسراء: ١٠٢ ”

{Mazima ddala okimanyi nti tewaliiwo assa bubonero buno okujjako omulezi wamagulu omusaanvu nensi nga bujulizi era nga bubonero obulaga obuyiinza bwe n'obwomubwe mukusiinzibwakwe eri abaddu be, era mazima ddala nze nkakasa nti gwe Falaawo (olwokubuwakanya) oli mubazikiridde era abafafaaganiddwa }.

Nekulwensonga eyo baali abashiriku bakkiririza mubwakatonda bya Allah newankubadde nga baali bamugattako ebintu ebirala mukumusinja. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۗ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۗ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنْقُوتُ ۗ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۗ ﴿٨٩﴾ المؤمنون: ٨٤ – ٨٩ ”

{Gamba (gwe Muhammad "s.a.w") nti ani yakola ensi nebigirimu bwemubanga mumanyi, bajjakugamba nti bya Allah, gamba abaffe kati lwaki temwejjukiza, gamba nti ani mulezi wamagulu omusanvu nebyo byonna ebigalimu, era omulezi wa Namulondo eyekitiibwa, bajjakugamba (kukakasa) nti byonna Allah yemulezi wabyo, abaffe kati lwaki temutya kusiinza bitali Ye, gamba nti ani alina mumukono gwe obufuzi bwabuli kintu kyonna, nga yakuuma ate nga ye takuumibwa bwemubanga mumanyi, bajjakugamba nti Allah, gamba nti kati lwaki mulinga abaloge nemusalawo okusiinza ebitali ye}.

Era Allah n'agamba:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٩﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ ﴾
الزخرف: ٩

{Bwonooba nga obabuuzizza nti ani yatonda eggulu nensi, bajjakugamba nti Allah owekitiibwa omumanyi yeyabitonda}.

Era Allah n'agamba:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٨٧﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾
الزخرف: ٨٧

{Era bwonobabuuzza nti ani yabatonda, bajjakugamba nti Allah kakati lwaki ate bava kukumusinja nebasinja ebitali ye?}.

ekiragiyo ky'omuleze (Allah) kibuna ensonga zensi yonna, nabwekityo ebyeddiini, nga bwekiri nti yagifuga n'okugitambuza, wamu n'okugiteekateeka, akola muyo okusenziira nga bwaba ayagadde, Era alamula muyo mukuteekawo engeri y'okumusiinza, n'amateeka agafuga embeera z'abaddu be, okusiinzira kuki ekisinga okuba ekiruungi gyebali, oyo yenna gwekatanda nateekawo omuwi webiragiyo namateeka mukusiinza ebitali Allah, oba omulamuzi kumbeera ze omulala atali Allah, aba agasse ku Allah nekintu ekirala era aba nga tatuukirizza bukkiriza.

Ekyokusatu: okukkiriza okusinziibwaakwe. (Okukkiriza nti alyomu, tewali katonda mulala asiinziibwa mubutuufu okujjako ye, era yemutoonzi wabuli kimu talina kimwegattako mubwakatonda bwe nemukusiinziibwa kwe), nga nekigambo Allah kitegeeza oyo owawaggulu asiinziibwa mukwagala n'okumugulumiza, Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ البقرة: ١٦٣

وقَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ آل عمران: ١٨

{Omusiinziibwa wammwe alyomu, tewaliiwo ateededwa kusiinziibwa mubutuufu okujjako ye omusaasizi ennyo era owekisa ekiingi}.

Era Allah n'aganba:

{Allah ajulira nti mazima ddala tewaliiwo kusiinziibwa mubutuufu okujjako ye, nebamalayika be bajulira kwekyo, bwebatyo nebannanyini kumanya, ayimiridde kubwenkanya (okubanga yasiinziibwa) tewaliiwo kusiinziibwa mubutuufu okujjako ye owekitiibwa ateeda buli kintu mukifo kyakyo}.

Nabuli yenna ateedawo ekisiinziibwa ekirara ekitali Allah, okukkiriza kwe mukusiinza Allah kuba kufu. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَبَّ اللَّهُ

هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٦٢﴾ الحج: ٦٢

{Ddala kiri bwekityo kubanga Allah ye w'amazima, nabuli kyonna ekisiinziibwa ekitali ye, kusiinziibwa mubukyamu, Era mazima ddala Allah yewaawaggulu asinga buli kintu kyonna}.

Nabyonna ebitali ye, okubiyita ebisiinziibwa tekibifuula nti bwebirina okusiinziibwa. Allah yagamba ku (allaata, mannaata, ne uzza):

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿٣٩﴾ النجم: ٢٣ "

{Tebiri ebyo byemusiinza (nga ategeeza, allaata, manaata, ne uzza) okujjako mannya bunnya gemwetuumira mwe ne bakitamwe, Allah tabissangako bujulizi }.

Allah atunyumiza ku yusuf nti yagamba banne ababiri beyali nabo mukkomera:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنْصَحِي السَّجْنَءَ رَبَّابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿٤٠﴾ يوسف: ٣٩ - ٤٠

{Basibe bannange, bakatonda abaangi bebasinga obuluungi, oba Allah omu omukasi, temusiinza ebyo ebitali ye okujjako mannya bunnya gemwetuumira mwe ne bakitamwe, Allah tabissangako bujulizi }.

N'olwekyo baali ababaka ba Allah bonna (okusaasira kwa Allah kube kubo) bakowoola abantu baabwe nebabagamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿٨٥﴾ الأعراف: ٨٥

{Musinze Allah, temulinaayo musiinzi bwa mulala okujjako ye }.

wabula abashiriku baagana, nebasalawo okuteekawo ebisiinzi bwa ebirala ebitali Allah, nebabasiinza nga wamu naye, nebasabanga okubataasa mubuzibu, wamu n'okubalaajanira nga Naye Allah yamenyawo ekya bashiriku okuteekawo ebisiinzi bwa ebirala ebitali ye n'obujulizi obwamagezi bwamirundi ebiri:

Obusooka: Mazima Ddala ebisiinzi bwa ebirala byebaatekawo tebirinaayo kintu kyonna kyebirina kyeyawulidde mubwakatonda, byo byennyini bitonde byatondebwa, tebirina

kyebyaali bitonze, era tebisobola kubaako mugaso gwonna gwebiyinza kukolera babisiinza wadde okubataasa mubuzibu, oba okubawa obulamu wadde okubatta, tebirina bufuzi kukintu kyonna muggulu nemunsi wadde okubaamu n'omugabo.

Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِهْلًا هَٰئِلَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ الفرقان: ٣

{Nebateekawo mukifo kye (Allah) ebisiinzibwa ebilala ebitali ye, naye nga tebisobola kutonda kantu konna wabula nga nabyo byatondebwa butondebwa, tebisobola kwetuusako buzibu wadde okwetuusako omugaso gwonna, era sibye bifuga okufa, newankubadde obulamu wadde okuzuukira } wabula byonna biri mubuyinza bwa Allah.

Era Allah n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ﴿٢٣﴾ سبأ: ٢٢ - ٢٣

وقَالَ تَعَالَى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ الأعراف: ١٩١ - ١٩٢

{Gamba (owange gwe Muhammad) mukowoole ebyo byemugamba nti bisiinzibwa wamu ne Allah, tebilina bufuzi ku kantu konna kakabe kanyinkuuli (akantu akasembayo obutono) muggulu wadde munsi, Era tebabirinaamu mukono (mukutondebwa kweggulu nensi), Era Allah talina mubyo muyambi, n'okuwolereza tekugasa gyali okujjako oyo gwaba akkirizza }

Era n'agamba: { Abaffe bagatta ku Allah ebyo ebitasobola kutoonda kantu konna, Era nga nabyo byatondebwa butondebwa! Era tebisobola kubataasa wadde byo okwetaasa }.

Bwebanga eyo y'embeera yebyo ebiteekebwawo okusiinzibwa ebitali Allah, (okuba nti bitonde, binafu byetaavu) Mazima okubifuula ebisiinzibwa, kyabubuya buya obwekika ekyawaggulu, era kifu bweffuffululu.

Obwokubiri: Mazima abashiriku bakakasa nti Allah yekka yemulezi, omutonzi, era y'alina obufuzi mumukono gwe kubuli kintu kyonna, n'olwekyo kyali kibakakatako okumwawula mukumusiinza, nga bwebaamwawula mubulezi bwe, nga Allah bweyagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ البقرة: ٢١ - ٢٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ الزخرف: ٨٧

{ Abange mwe abantu musiinze omulezi wamwe (Allah) oyo eyabatonda naabo abaabasookawo, mulyoke mubeere abamutya, oyo Allah eyabafuulira ensi omwaliiro, neggulu nga muziimbo, n'atonyesa enkuba, n'ameza nayo ebimera nga kugabirira kummwe, kalenno temugattanga ku Allah ebintu ebirala (nemubisiinza nga bwemumusiinza) nga namwe mumanyi (nti talina kimwegattako mukutonda nemukugabibirira, wamu nemukuteekateeka) }.

Era n'agamba Allah: { Bwonooba obabuuzizza ani yabatonda? bajjakugamba nti Allah, kaakati lwaki ate bamulekawo nebaiinza ebitali ye }.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِوْنَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّوْنَ ﴿٣٢﴾

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْقِوْنَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّوْنَ ﴿٣٢﴾

﴿٣٢﴾ يونس: ٣١ - ٣٢

{ Gamba (owange gwe Muhammad) ani abagabirira okuva muggulu ne munsi, oba ani afuga okuwulira n'okulaba, era ani ajja ekiramu mukifu, Era n'ajja ekifu mukiramu, era ani atekateeka ebintu byonna (muggulu ne munsi), bajjakugamba nti Allah (yakola ebyo byonna) gamba abaffe kati lwaki temutya, (nemumutongoza mukusiinzibwa kwe oluvannyuma lwokumanya nti ebyo bonna y'abikola) oyonno yemusiinzibwa wamwe omulezi wamwe owa Mazima, Kati lwaki mubula oluvannyuma lwokutegeera amazima, era ngeri ki jemukyuuka nemutasiinza oyo gwe mutegedde obujjuvu bwe }.

Ekyokuna: okukkiriza amannya ga Allah nebitendo bye: (okukakasa ku Allah ebyo byeyekakasaako mukitabo kye Qura'n nemu Sunna za Nabbi (s.a.w) mumannya nebitendo, mumbeera esaanidde kuye, nga tetukyusizza, oba okumujjako, oba okugerageranya, oba okufaananyiriza), Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

﴿١٨٠﴾ الأعراف: ١٨٠

{ Ga Allah amannya agasiinga obuluungi, mumusabe nago, muleke abo abakyusa kyusa amannya ge bajja kusalwa ebyo byonna byebaali nga bakola }.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ الرَّوم: ٢٧

{Era bibye ebitendo ebijjuvu muggulu nemusi, Era yewekitiibwa owamagezi (ateeka buli kintu mukifo kyakyo)}.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

{Talina kintu kyonna kimufaanana (Allah) Era ye awulira n'okulaba ennyo}.

Kusonga eyo abantu baabibinja bibiri baabula:

Ekibinja ekisooka: Abagajjawo: bawakanya amannya ga Allah nebitendo bye, oba ebimu kubyo, nga beekwasa nti okubimukakasaako Allah kireetera okumufaananya nebimu kubitonde bye. Naye ekyekwaso kyabwe kifu olwensonga zino wammanga.

Esooka: okuba nti kiviirako ebyetteeka ebikyamu, nga okkontana mubigambo bya Allah, kubanga Allah yeekakasaako amannya nebitendo, Era neyeekakasaako nti talina kimufaanana, singa okumukakasaako (amannya nebitendo) kiviirako okumufaananya ebitonde bye, wandibadde wo okkontana mubigambo bye, n'ebimu kubigambo bye okulimbisa ebirara.

Eyokubiri: sikyatteeka nti ebintu ebibiri singa bifaanaganya erinnya oba ekitendo, okuba nti bifaanagana. osobola okulaba abantu babiri nga bakwatagana okuba nti bonna bantu abalaba, ab'awulira era aboogera, naye ekyo tekitegeeza nti bafaanagana mumakulu g'obuntu, n'okulaba, n'okuwulira wadde okwogera, Era olaba ebisolo birina emikono n'amagulu n'amaaso, naye ekyo tekitegeeza nti okkwatagana kwabyo okwo, okuba nga emikono gyabo, n'amagulu, n'amaaso bifaanagana, wabula buli kimu kyefaanana kyokka mungeri yakyo.

Bwewamala okweyoleka enjawulo wakati w'ebitonde ebirina ebiyungo byebifaanaganya mumannya n'ebitendo, ate enjawulo wakati w'omutonzi n'ebitonde neyolefu nnyo.

Ekibinja Ekyokubiri: Abamufananya nebitonde abo bakakasa amannya ga Allah n'ebitendo bye naye nga babifaanaganya n'ebyebitonde, nga bagamba nti ekyokubifaananya nebyebitonde kituukagana buluungi n'ebwawandikibwa ebitukuvu mu quran nemunjigiriza ya Nabbi (s.a.w), kubanga nti Allah ayogera nabaddu be nebyo byebategeera, era byebamanyi. Nayenno endowooza eyo nfu olwensonga zino wammanga:

Esooka: okufaananya Allah nebitonde bye, kikyamu, oba kifu nyo era n'amagezi tegakikiriza, nabwekityo ebyawandikibwa ebitukuvu, ate nga amakulu gebyawandikibwa mukitabo (Qura'n) ne Sunna za Nabbi (s.a.w) tebisobola kuba bikyamu oba bifu.

Eyokubiri: Mazima Allah yayogera n'abaddu be kwebyo byebategeera mumakulu agaabulijjo (okusobola okufuna ekigendererwa mubigambo bye) naye nga mumazima obutuufu bw'amakulu agaddala, byebimu ku Allah byeyesigaliza mubikwata ku bwennyini bwe, nebitendo bye.

Kati Allah bweyeekakasaako okuwulira, ekyo kitegeerekeka mumakulu agabulijjo, naye nga obutuufu bwokuwulira Kwa Allah ffe nga abantu tetukumanyi, kubanga n'obutuufu bw'okuwulira nemubantu bwawukana. Kati ebitonde bwebiba nga bwawukana mwebyo byebifaanaganya, ate okwawukana wakati w'omutonzi nebitonde kweyolefu nnyo.

Era Allah bweyeekakasaako nti ateredde ntende kunnamulondo ye, okutereera okwo kumanyiddwa mumakulu agaabulijjo, naye obutuufu n'engeri gyatereddemu tewali agimanyi okujjako ye, kubanga obutuufu byokutereera bwawukana nemubantu, kati okwawukana wakati w'omutonzi n'ebitonde kweyolefu nnyo.

Okukkiriza Allah nga bwetunyonnyodde kiwa abakkiriza ebibala bino wammanga:

Ekisooka: okutuukiriza n'okunyweza okwawula Allah, okutuuka okubanga omuddu talina gwasuubila kumumalira

byetaago bye okujjako Allah, era nga taty a kitali ye, wadde okusiinza ekintu ekirala kyonna ekitali ye.

Ekyokubiri: okufuna okwagala Allah okujjuvu, n'okumussamu ekitiibwa okusiinziira kumannya ge amalungi n'ebitendo bye ebyawaggulu.

Ekyokusatu: okutuukiriza okumusiinza, nga okola byeyalagira n'okwewala ebyo byeyagaana.

OMUSINGI OGWOKUBIRI: OKUKKIRIZA BAMALAYIKA.

Malayika: bitonde bya Allah ebyekusifu, (tetusobola kubiraba), tezirina kakwate konna mubulezi bya Allah, wadde okusiinzibwa, Allah yazitonda mumuliro, n'aziwa obugoonvu obujjuvu kubiragiro bye n'amanyi agenjawulo mukubiteeka munkola. (Zisiinza Allah nga bwayagala, era tezimujeemera mukintu kyonna kyaba aziragidde). Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ الأنبياء: ١٩ - ٢٠

{Era bibye ebiri muggulu nemunsi n'abo abali gyali (bamalayika) tebeekuza kukumusiinza era tebeekaanya (olwobujjuvu bwokwagala kwabwe eri Allah), batendereza ekiro nemisana, era nga tebakoowa}.

Omuwendo gwazo munene nyo era tewali ayinza kugumanya okujjako Allah, era kyakakata mubitabo ebituufu ebibiri (ekya bukhari ne musirim) muhadith ya anas ibn maalik (Allah yasiima kubo) mukyafaayo kyolugendo lwokutwalibwa kwa Nabbi (s.a.w) muggulu (Israa wal miraaaj), nti Nabbi yabuusibwa waggulu wenyumba eyekitiibwa esaalirwamu buli lunaku bamalayika emitwalo musanvu (70,000), atenga abamala

okusaala tebadda. Ekyo kitegeenza nti omuwendo gwazo munene nnyo.

Okukkiriza ba Malayika kuzingiramu ebintu bina:

Ekisooka: okukkiriza okubaawo kwabwe.

Ekyokubiri: okukkiriza erinnya lyeyo lyetutegedde muzo erinnya (nga jibriir) Era nejetutategedde linnya tugikkiriza nti jeeri.

Okyokusatu: okukkiriza ebikitendo byeyo byetutegedde muzo mubitendo, (nga ebitendo bya jibriir) Nabbi (s.a.w) yagamba nti yagiraba mukiti kyeyatoondwamu nga erina ebiwawaatiro lwenda (900) nga bibisse obwengula.

Malayika esobola kulw'obuyinza bwa Allah okukyuka nedda mukifaananyi kyo'muntu, nga bwekyali ku jibriir Allah bweyagituma eri Mariam (maama wa Nabbi Isa) nemulabikira mukifaananyi ky'omusajja, mungeri yemu yajja eri Nabbi (s.a.w) bweyali nga atudde mubaswahaba be, yajja mukifaananyi kyomusajja nga mweru nyo, nga nengoye ze njeru nyo, nga nenviiri ze nzirugavu nyo, talabikako kabonero kalugendo konna, era nga tewali n'omu amumanyi mubaswahaba, kyeyava atuula ewali Nabbi (s.a.w) neyenkanya nkanya amaviivige kumaviivi ga Nabbi n'ateeka emikono gye kubisambi bye, n'amubuuza kubusiraam, n'obukkiriza, n'okweyisa obuluungi, nekulunaku lwenkomerero, nobubonero bwalwo. Nabbi (s.a.w) namwanukula bweyamaliriza n'agenda (jibriir), oluvannyuma Nabbi (s.a.w) yagamba baswahaba nti oyo abadde jibriir abajjidde abayigirize eddiini yamwe. Ebyo bili mukitabo kya musulimu.

Nabwekityo bamalayika Allah beyatuma eri Nabbi Ibrahiim (a.s.w) wamu ne Nabbi Luutu (a.s.w) baali mukifaananyi kyabasajja.

Ekyokuna: okukkiriza emirimu gyezo jetutegedde jezikola kulwekiragiyo kya Allah, okugeza nga okuteendereza,

n'okumusiinzanga ekiro n'emisana awatali kukoowa wadde okwekaanya.

Era ezimu kuzo zirina emirimu ejeyawulidde jeziri:

Okugeza nga Jibriir omwesigwa eri obubaka bwa Allah, nga Allah agitikka obubaka nebuleetera ababaka nebanabbi be.

Ne Mikayiri Allah yajikwasa obuvunaanyizibwa obwokutonnyesa enkuba nebirime.

Ne Israfiir, eyina omulimu gwokufuuwa engombe, enkomerero bweriba nga etuuse, nokuzuukiza ebitonde.

Ne Malayika walumbe, alina obuvunaanyizibwa bwokujjamu emwoyo mukiseera kyokufa nga kituuse.

Malayika ekuuma n'okuteekateeka omuliro.

Ne Malayika ebbiri ezivunaanyizibwa kubaana abali mumbutu (zabannyabwe), omwana bwaweza emwezi ena mulubuto lwannyina Allah asindika Malayika nagiragira ewandiike riziki ye, obuwangazibwe, nemirimu gye, era an'abeera wakwesiima oba kufafaaganirwa.

Ne Malayika ezivunanyizibwa okukuuma nokuwandiika emirimu gy'abaana b'adam kubuli muntu. Era nga ziri biri emu yakumukono ogwadyo ate endala ya kukkono.

Ne malayika ezivunanyizibwa okubuuza omufu, omuntu bwaba nga amaze okuteekebwa muntaana ye Malayika biri zimujjira nezimubuuza ku mulezi we (katondawe) neddiini ye nekunabbi we.

Okukkiriza ba Malayika kurina ebibala bino wammanga:

Ekisooka: Okumanya obukulu bwa Allah, namaanyi ge, n'obuyinza bwe, kubanga obukulu, n'obuzito, n'amaanyi gekitonde, galaga obukulu, n'obuzito n'amaanyi by'omutonzi wakyō.

Ekyokubiri: Okwebaza Allah olwokufaayo kwe eri abaana b'adamu, bweyaddira abamu kubamalayika n'abawa obuvunaanyizibwa okugeza nga okubakuuma, okuwandiika emirimu gyabwe, nebirala ebiringa ebyo ebiriwo kulwobuluungi bwabantu.

Ekyokusatu: Okwagala ennyo bamalayika olw'omulimu omunene gwebakola ogwokusiinza Allah.

Wabula abamu kubaabula bawakanya ekyaba Malayika okuba nemibiri, nebagamba nti, Malayika, tezirina mubiri wabula ziri mumbeera ya maanyi amalungi agava mubitonde. Naye nno ekyo kibaleetera okulimbisa ekitabo kya Allah (Qura'n) nebigambo by'omubaka Muhammad (s.a.w) n'okwegatta kwabasiramu (kukubanga Malayika zirina omubiri).

Allah y'agamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْقَالٍ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ

﴿١﴾ فاطر: ١

{Amatendo ga Allah, oyo omutandisi weggulu nensi, eyafuula bamalayika nga babaka, bannanyinni biwawaatiro bibiri, n'ebisatu, n'ebina}.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ

﴿٥٠﴾ الأنفال: ٥٠

{Oliraba mukiseera ekyo bamalayika bwebaliba batta abo abaajemera amateeka ga Allah, nga zibakuba ebyenyi byabwe nemigongo gyabwe}.

Era nagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوٓآءِ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۗ ﴾ الأنعام: ٩٣

{Oliraba mukiseera ekyo abalyazaamanya bwebaliba nga bali kumugo gwentaana, nga bamalayi banjuluzza emikono gyabwe nebabalagira okujjamu emyoyo gyabwe}.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۗ ﴾ سبأ: ٢٣

{Okutuusa bwebaliba nga okukaankana n'okutya kuvudde mumitima gyabwe (olwokuwulira ebigambo bya Allah) balyebuzaganya nti kiki ky'agambye omulezi wammwe? Bajja kugamba nti mazima (mukuwolerezebwa) ate nga ye waawaggulu asiinga era nga buli kintu kyonna kiri wansiwe}.

Era n'agamba kubantu bomujjana (enyumba eyemirembe):

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ ﴾ الرعد: ٢٣ - ٢٤

{Nti nebamalayika bajjakuba nga bayingira jebali mubuli mulyango, ngababagamba emirembe gibeere jemuli olwebyo byemwaguminkiriza musasudwamu enyumba eyemirembe}.

Ne muswahiih bukhari hadiith nga eva ku abu huraira nga agijja ku Nabbi (s.a.w) y'agamba nti:

" إذا أحب الله العبد, نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل, فينادى جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض "

(Allah bwayagala omuntu, okowoola jibriir n'amugamba nti Mazima Allah ayagala gundi n'awe mwagale, jibriir n'amwagala, oluvannyuma jibriir naye akowoola mubanannyini ggulu (ba Malayika banne) nti Allah ayagala gundi namwe

mumwagale nabo nebamwagala, oluvannyuma Allah omuddu oyo n'amuteera omukisa n'okwagalwa munsi).

Era mubitabo ebyo (ekya bukhari ne musirimu) mulimu nti Nabbi (s.a.w) y'agamba:

" إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول, فإذا جلس الإمام طووا الصف, وجاءوا يستمعون الذكر "

(Olunaku lwe jumah bwerutuuka, bamalayika bajja kubuli mulyango mumiryango gy'omuzikiti nebawandiika (abazze okusaala) asoose okujja naddako okutuusa Imaam lwavaayo n'alinye ekituuti bajja nebatuula munyiriri nebawuliriza okujjukizibwa (khutuba).

Obwo bwonna obujulizi mubyawandikibwa bulambika buluungi nti bamalayika balina emibiri sossi maanyi agali mumakulu nga bwebagamba abo abaabula. Nekulwamakulu agali mu byawandikibwa ebyo abasiraamu beegatta kukigamba nti bamalayika balina emibiri.

OMUSINGI OGWOKUSATU: OKUKKIRIZA EBITABO.

Biyitibwa Ebitabo singa biba binji, ate bwe kiba kimu kiyitibwa kitabo, nga kitegeeza ekiwandikidwa.

Nga nekitegendererwamu wano, byebitabo ebyo Allah byeyassa kubabakabe nga kyakusaasira eri ebitonde, n'okubalunganya basobole okutuuka mubulamu obwokwesiima wano kuni nekunkomerero.

Okukkiriza ebitabo kizingiramu ebintu bina:

Ekisooka: Okukkiriza nti okussibwa kwabyo okuva eri Allah kw'amazima.

Ekyokubiri: Okukkiriza erinya lyetutegedde mumanya gabyo nga Qura'n eyassibwa kuwekitiibwa Nabbi Muhammad (s.a.w), Tauraat eyassibwa ku Nabbi Muusa (a.s.w), Enjiri (Bayibuli)

eyassibwa ku Nabbi Isa (a.s.w), Zabbuli eyaweebwa Nabbi Dauda (a.s.w), nebyo byetutategedde mannya gabyo tubikkiririzaamu okutwalira wamu (mumbeera yakitole).

Ekyokusatu: Okukakasa ebyajjiramu nti Mazima, nga ebitunyumizibwa mu Qura'n, nebyo ebitunyumizibwa mubitabo ebyasooka ebitaakyusibwa oba okubuzabuzibwa.

Ekyokuna: Okkolera kumateeka agalimu kasita gabeera nga tegaakyusibwa oba okusiimuulwa, okwo saako okugasiima wamu n'okwewaayo gatulamule, sinsonga tategedde ekigendererwa ekyekusifu mugo oba tetukitegedde, era tulina okukimanya nti ebitabo byonna ebyasooka okussibwa okuva muggulu, okulamula kwabyo kwasiimulwawo n'okukka kwa Qura'n eyekitiibwa. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۝

المائدة: ٤٨ ﴿٤٨﴾

{Twassa gyooli ekitabo (Qura'n) mumazima, era nga kijjudde mazima, nga kikakasa ebitabo ebyo ebyakikulembera (nga tawraat ne njiri) era nga kiramuzi ekisengezzi kubyo }

N'olwekyo tetukkirizibwa kukolera kutteeka lyonna mumateeka agali mubitabo ebyasooka okujjako ettuufu era eryamazima mugo ate nga Qura'n yalikakasa.

Okukkiriza ebitabo kulina ebibala bino wammanga:

Ekisooka: Okumanya okufaayo enyo Kwa Allah eri abaddu be, bweyassa ekitabo eri kubuli kibinja kyabantu (oba kubuli mulembe), basobole okulungama nakyo.

Ekyokubiri: Okumanya obukenkufu bwa Allah mukuteekateeka amateekaage, byeyawa buli kibinja ky'abantu amateeka agabasaanidde okusiinziira kumbeera yabwe. Nga Allah bweyagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا ٤٨﴾ المائدة: ٤٨

{Buli (kibinja ky'abantu) mummwe twabateerawo amateeka n'enkola eyokugobererwa (basobole okulungamizibwa)}.

Ekyokusatu: Okwebaza ebyengera bya Allah mwekyo.

OMUSINGI OGWOKUNA: OKUKKIRIZA ABABAKA.

Ababaka nga baangi, omu ayitibwa mubaka (omutume), nga ye muntu atumiddwa awantu okubaako kyatuusawo. Naye amakulu agagendererwamu wano, yemuntu assiddwako obubaka nga bwamateeka oba biragirowo okuva eri Allah okubaako jabutuusa mubaddu be.

Omubaka eyasooka bamuyita Nuuh (a.s.w), nga n'asembayo ye Muhammad (s.a.w). Allah yagamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ١٦٣﴾ النساء: ١٦٣

{Mazima ddala twassa kugwe (Muhammad) ekitabo (Qura'n) nga bwetwakissa ku Nuuh neba Nabbi abalala oluvanyuma lwe (Nuuh)}.

Ate mu swahih bukhari hadith nga eva ku Anas ibn maalik (Allah yasiima kuye) nti Nabbi Muhammad (s.a.w) yagamba mu hadiith ekwata kukuworereza abantu kulunaku lw'enkomerero:

" أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول اتوا نوحا أو لرسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث "

(Nti mazima abantu bagenda kujja eri Adam bamusabe abawolereze ewa Allah, abeetondere (olwobutasobola kubawolereza) amale abagambe nti mugende ewa Nuuh, oba ew'omubaka (Muhammad) oyo Allah gweyatuma.....) Okutuuka hadiith jekoma.

Era Allah n'agamba:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٤٠﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴿٤٠﴾ الْأَحْزَاب: ٤٠ ﴾

{Muhammad (s.a.w) tabeerangako kitaawe w'omu mubasajja mumwe, wabula mubaka wa Allah, era nga yewenkomerero muba Nabbi}

Era tewali kibiina kyabantu okujjako nga Allah yakitumira omubaka n'amateeka amapya nga geyawulidde jekiri. Oba Nabbi Allah gweyassaako amateeka geyassa ku mubaka eyamusookawo asobole okugazza obujja. Allah y'agamba:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾ النحل: ٣٦ ﴾

{Mazima twaatuma mubuli kibiina kyabantu omubaka, ategeeze abantu be okusiinza Allah, n'okwewala ebyo byonna ebisiinzibwa ebitali Allah}.

Era Allah n'agamba nti:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٢٤﴾ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ فاطر: ٢٤ ﴾

{Tewali gwanga oba kibiina kayabantu kyonna okujjako nga kyalimu omutiisa (Omubaka)}.

Era n'agamba nti:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴿٤٤﴾ المائدة: ٤٤ ﴾

{Mazima twassa Tawuraat (eri Muusa "a.s.w") nga erimu oburungamu (eri obukkiriza n'amazima, n'okubatangira obubuze), wamu n'ekitaangala, balamuza nayo ba Nabbi abo abajemukukira amateeka gange eri abayudaaya}.

Ababaka ba Allah nabo bantu ab'atondebwa obutondebwa era tebalina kakwaate konna mwebyo ebyeyawulidde mubulezi bwe (Allah) wadde okusiinzibwa.

Allah y'agamba omubaka Muhammad (s.a.w) ate nga ye mukulu wababaka bonna (era owenkizo mubo) nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْبِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ الأعراف:

١٨٨

{Gamba (owange gwe Muhammad) nti sirina buyinza kumwoyo gwange okugugasa n'ekintu kyonna wadde okugutuusako obuzibu, okujjako ekyo Allah kyaba ayagadde, Era mbakuba nga manyi ebyekweese nandifunye ebiruungi era sandituukiddwako kabi kona, sirina kyendi (ewa Allah) okujjako omusanyusa era omutiisa eri abantu abakkiriza}.

Era Allah n'agamba:

تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحْيِيَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ

مُلْتَحِدًا ﴿٢٢﴾ الجن: ٢١ - ٢٢

{Gamba (owange gwe Muhammad) nti sirina buyinza kumwe kubatuusaako buzibu wadde okubalungamya, gamba nti tewaliiwo n'omu ayinza kuntaasa eri Allah, era siyinza kufunayo bukkukiro bulala etali ye (Allah) okkuuma omwoyo gwange}.

Era nga ababaka batukibwako ebyo byonna ebituuka kubantu nga okulwala, okufa, obwetaavu eri okulya nokunywa, nebirala ebiringa ebyo. Kyova olaba Allah yagamba (muqura'n) nga atunyumiza ku Nabbi Ibrahiim (a.s.w) bweyali nga atenda Allah we:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ

يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ الشعراء: ٧٩ - ٨١

{Era yooyo (Allah) andiisa (angabirira ebyokulya), nebyokunywa, nebwemba nga lwadde y'amponya, era yajja okunzita (ekiseera kyange bwekinaaba nga kituuse) era yajja okunzukiza kulunaku lwenkomerero }.

Ne Nabbi Muhammad (s.a.w) y'agamba:

(إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)

(Mazima ddala nze ndimuntu nga mwe, nerabira nga namwe bwemwerabira, naye bwembanga nerabidde muzijukizanga).

Era Allah yateenda ababakabe okuba nti baali muddaala lyawaggulu nyo mukumusiinza. Kyava y'agamba ku Nabbi Nuuh mukumuwaana:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٢﴾ ﴾ الإسراء: ٣

{Mazima ddala yali (Nuuh) omuddu eyeebaza }.

Ate n'agamba ku Nabbi Muhammad (s.a.w):

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ﴾ الفرقان: ١

{Obuluungi byoyo (Allah) bwalagawala eyassa kumuddu we (Muhammad) ekitabo (Qura'n) ekyawula wakati w'amazima n'obuliimba, abeere eri abantu bonna nga mutiisa (nga mubaka) }.

Era n'agamba ku Nabbi Ibrahiim, ne Ishaq, ne Y1aakuub, (okusaasira kwa Allah nemirembe bibeere kubo):

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأذْكَرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ

ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

{Era Jukira (buluungi) abaddu baffe (abewaayo okuunsiinza) Ibrahiim, ne Ishaq, ne Yakuub bannanyini maanyi (mukunsiinza) n'okumanya (amateeka nebigedererwa bye ddiini) mazima ddala twabawa okujjukira n'okukorerera enyumba eyenkomerero okwenjawulo, mazima bbo gyetuli baali mubaddu betwalondobamu abaluungi (bakola empisa enungi nemirimu mubwesiimbu)}

Era Allah n'agamba ku Nabbi Isa mutabani wa Mariam (a.s.w):

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ الزخرف: ٥٩

{Talina kirala kyali (Isa) okujjako okuba omuddu (eyatondebwa obutondebwa) gwetwaawa ebyengera, era netumufuula akabonero eri abaana bayisirayiri}.

Okukkiriza ababaka kuzingiramu ebintu bina:

Ekisooka: Okukkiriza nti obubakaba bwabwe byamazima, era oyo yenna aliimbisa oba n'awakanya obubaka bw'omu kubo aba alimbisizza era n'awakanya bonna, nga Allah bweyagamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ الشعراء: ١٠٥

{Baalimbisa abantu b'omulembe gwa Nuuh ababaka}. Allah n'abalamulako okuliimbisa ababaka bonna songa ate mukiseera Nuuh weyabeererawo tewaliiwo mubaka mulala okujjako ye yekka. Nabwekityo abakulisitaayo abaliimbisa Nabbi Muhammad (s.a.w) nebatamugoberera, balamulwako okuba nti baalimbisa Nabbi Isa (a.s.w) Era nga sibagoberezibe n'akamu, songa ate Nabbi Isa yabasanyusa n'okujja kwa Nabbi Muhammad (s.a.w), ate nga n'amakulu gokubasanyusa kukujja kwe, kwekuba nti ajja kuba mubaka atumidwa jebali abajje mububuze bwebalimu abalungamye eri ekkubo eggolokofu.

Ekyokubiri: Okukkiriza erinnya lyoyo gwetutegedde mubo erinnya, okugeza nga Muhammad, Ibrahiim, muusa, Isa, Nuuh (okusaasira kwa Allah nemirembe bibe kubo), abataano bano

bebeenkizo mubabaka, era Allah yaboogerako emirundi ebiri (mumbeera eyaawamu) mu Qura'n awasooka: musurat al ahzaab:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِذَٰلِكَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ﴾
 الأحزاب: ٧

{Jukira (owange gwe Muhammad) bwe twakola endagaano neba Nabbi (ey'okuba nti balina okusiinza Allah yekka n'okkwoola abantu eri okumusiinza n'okuba nga buli omu akakasa amazima g'omulala), naawe (Gwe Muhammad), ne Nuuh, ne Ibrahiim, ne Muusa, ne Isa mutabani wa Mariam (abenkizo muba Nabbi)}.

Ne musurat al shuura:

قَالَ تَعَالَى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۗ﴾ الشورى: ١٣

{Allah yabalaalikako eddiini (y'obusiraamu) eyo jeyalaamira Nuuh era yeeyo jetwakussaako era nga jetwalamira nayo Ibrahiim, ne Muusa, ne Isa, Netubaganba nti muyimirizeewo eddiini (nga mwawula Allah era muteeke munkola amateeka ge) era temwawukanaanga muyo}.

Ate oyo gwetuba tetutedgedde linnya lye mubo, tumukkiriza mumbeera ey'awamu. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ غافر: ٧٨

{Mazima twatuma ababaka oluberyeberye lwo, mubo mulimu betwakunyumizaako era mubo mulimu betutakunyumizaako}.

Ekyokusatu: Okukakasa ebituufu ebibogwerwako nti bya Mazima.

Ekyokuna: Okukolera kumateeka goyo eyatumwa jetuli, era nga yemenkomerero mubo (Muhammad s.a.w), eyatumibwa eri abantu bonna. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَّيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿٦٥﴾ النساء: ٦٥

{Nelayiridde nze mukamaawo tebasobola kuba bakkiriza okutuusa nga bakulamuzisizza mwebyo byebafuunyemu obutakaanya wakati wabwe, ate nebatasigalamu kakunkuna konna mwekyo kyoba alamudde nebakakkana eri okulamulako era nebeewaayo olwewaayo olusembayo }.

Okukkiriza ababaka kulina ebibala bino wammanga.

Ekisooka: Okumanya ekisa kya Allah nokufaayo kwe eri abaddu be bweyabatumira ababaka babalungamye eri ekkubo eggolokofu, n'okubannyonnyola butya bwebalina okusiinza Allah, kubanga amagezi g'omuntu tegasobola kwemalira gokka kyekyo.

Ekyokubiri: Okwebaza Allah olwebwengera bino ebinene.

Ekyokusatu: Okwagala ababaka n'okubagulumiza, n'okubawaana mumbeera ebasanidde, kubanga babaka ba Allah, era nga b'amusiinza, n'okutuusa obubabaka bwe, n'okubuulirira abaddu be.

Waliwo abantu abaabula nebalimbisa ababaka ba Allah, nga beekwasa nti ababaka tebava mubantu. Wabula ekyekwaso ekyo Allah yakyogerako era nakimenyawo.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يمشونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

رَسُولًا ﴿٩٥﴾ الإسراء: ٩٤ - ٩٥

{Tewali ky'agaana bantu kukkiriza mukiseera obulungamu bwebabajjira, okujjako okugamba nti Allah atuma atya omubaka nga muntu? gamba (owange gwe Muhammad), nti singa bamalayika beebaali babeera munsu nga mwebawangalira, twandissizza kubo (okuva muggulu) omubaka nga Malayika}.

Bwatyo Allah n'amenyawo okwekwasa kwabwe nti omubaka ateeddwa kuba muntu kuba b'atumwamu munsu Bantu nga bbo.

(Ababaka) Bantu, Era singa kunsu kwali kubeerako bamalayika ne Allah yandissizza omubaka okuva muggulu nga Malayika basobole okubeera nga bbo. Bwatyo Allah bweyayogera kubailimbisa ba Nabbi nti b'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ ١٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كُنَّا لِنَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ﴿١١﴾ إِبْرَاهِيمَ: ١٠ - ١١

{Temuli mwe okujjako muli bantu nga ffe, mwagala kutujja kwebyo bakadde baffe byebaali basiinza, bwemubanga mwogera mazima muleete obujulizi obweyolefu obukakasa ekyo kyemugamba, ababaka baabwe nebabagamba nti, kituufu tuli bantu nga mwe naye (mukimanye) nti Allah awa ebyengerabye oyo gwaba ayagadde mubaddu be, era tetusobola kubaleetera bujulizi (ekyamagero) kyonna okujjako nga Allah akkirizza}.

OMUSINGI OGWOKUTAANO: OKUKKIRIZA OLUNAKU LWENKOMERERO.

Olunaku lwenkomerero, lwelunaku lwokuyimira, abantu lwebagenda okuzukizibwa babalibwe era basasulwe empeera yabwe. Lw'atumibwa olunaku lwenkomerero kubanga tewali lunaku luvannyuma lwalwo lugenda kujja, abomujjana bagenda

kutebenkera mubisulo byabwe bugenderevu, n'abomumuliro bagenda kutebeenkera mubisulo byabwe bugenderevu.

Okukkiriza olunaku lwenkomerero kuzingiramu ebintu bisatu.

Ekisooka: Okukkiriza okuzuukira, (nga nakwo kwekuzuukiza abafu mukiseera engombe eyokubiri bweriba nga efuuyidwa, abantu bayimirire mumaaso ga Allah omulezi webitonde byonna, nga tebalina ngatto mubigere, bali bukunya tebalina kyebebisseeke, nga balina ekikuta sibatayirire. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ^{١٠٤} الأنبياء: ١٠٤

{Nga byetwatandika okutonda okwasooka, bwetugenda okubazzaayo, tubalagaanyisizza endagaano nga okujituukiriza kuli kuffe, era nga tulina obusobozi kukyonna kyetuba twagadde okkola}.

Okuzuukira kwamazima, era kuliko obujulizi okuva mu Qura'n, ne mu hadiith za Nabbi (s.a.w), n'okwegatta kwabasiraamu.

Obujulizi mu Qura'n; Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ ^{١٥} ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ^{١٦} المؤمنون: ١٥ - ١٦

{Mazima ddala mwe Oluvannyuma (lwokuba abalamu) mugenda kufa, era mazima ddala mwe kulunaku lwenkomerero mugenda kuzuukizibwa}.

Ate Nabbi (s.a.w) y'agamba mu hadith:

(يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا). متفق عليه.

(Abantu bagenda kuzuukizibwa kulunaku lwenkomerero nga tebalina ngatto mubigere, era nga sibatayirire). Hadith y'egattibwako bukhari ne muslim.

Abasiramu beegatta kukubaawo kwalwo, era nga okubeerawo kwalwo kulina ekigendererwa ekyokuba nti buddiro nga abantu kwolwo lwebagenda okusasulwa ebyo Allah byeyabagamba okkola nga abiyisa kunnimi z'ababaka be. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ ١١٥ ﴾ المؤمنون: ١١٥

{ Abaffe mulowooza nti twabatonda ngatuzannya buzannya (nga tetulina kigendererwa), era nga temugenda kudde jetuli (okuzuukizibwa) }.

وقال لنبىه ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۝ ٨٥ ﴾ القصص: ٨٥

Era nagamba Nabbi we nti { Mazima oyo (Allah) eyakussaako Qura'n agenda kukuzzaayo jeyakujja (kuzuukiza) }.

Ekyokubiri: okukkiriza okubalibwa n'okusasulwa. Omuntu ajja kubalibwa emirimuje kulunaku olwo era اساسulwe empeeraye (okusiinziira nga bweyakola), Era nga ekyo kiriko obujulizi okuva mu Qura'n, nemu hadith za Nabbi (s.a.w), nokwegatta kwabasiraamu.

Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝ ٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝ ٢٦ ﴾ الغاشية: ٢٥ - ٢٦

{ Mazima jetuli jebagenda okudda, era oluvannyuma kuli kuffe okubalibwa kwabe }.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ الأنعام: ١٦٠

{Oyo yenna alijja nekiruungi kyonna, kigenda kubisibwamu emirundi kumi egikifaanana, n'alijja nekibi kyonna tageenda kusalulwa okujjako empeera efaanana ekibi bye, atenga bonna tebalyazamanyiddwa}.

Era n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾ الأنبياء: ٤٧

{Netussawo ebipimo eby'obwenkanya olw'olukulunaku lw'enkomerero, omuntu (omyoyo) tegugenda kulyazamanyibwa kantu konna, nebwaliba nga yakola akanyinkuuli akenkana nga empeke y'akalo (oba akantu akasembayo okuba akatono ennyo) tugenda kkaleeta (tukumulage) kimala okuba nga ffe babazi (abaazima era abakenkufu)}.

Ate musunna, hadith nga eva ku ibn Umar (Allah yasiima kubo). Agamba nti Nabbi (s.a.w) y'agamba:

(إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كفه, ويستره فيقول: أتعرف ذنبك كذا؟ أتعرف ذنبك كذا؟ فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه, ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا, وأنا أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته, وأما الكفار والمنافقين, فينادى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظالمين) متفق عليه.

(Mazima Allah agenda kuseembera awali omuddu we omukkiriza n'amusseeko ebibatu bye (ebyeyawulidde ye mukitiibwa kye) n'amubikkirira, n'amugamb nti ojjukira ezzambi lyo bweriti nebweriti? ojjukira ezzambi lyo bweriti nebweriti? omuddu ajja kuddamu nti yye omuleziwange, okutuusa lweyekakasaako ezzambi lye, n'alaba nti azikiridde, Allah amugambe, nabibikkirira kungsi, era olwaleero

nkusonyiye, omuddu n'aweebwa ekitabo kye kyebiruungi bye, Naye bbo ab'awakanya Allah, n'abannanfuusi, bajja kkowoolwa munamunji w'omuntu, bagambibwe nti, abo bemulaba bebaayogera nga kumukama wabwe ebyobulimba "nga bamwogeza ebyo byataayogera era nga bamuwakanya" , Abange ekikolimo kya Allah kibeere kubalyazaamaanyi).

Era kyakakata okuva ku Nabbi (s.a.w) nti omuntu yenna amalirira okkola ekiruungi kimu era nakikola, Allah amuwandikako ebiruungi kumi okutuuka ku nsanvu, n'asigala nga amukubisizaamu erimundi mingi, Era singa omuntu amalira okkola ekibi, nakikola, Allah amuwandikako ekibi kimu.

Era abasiraamu begatta nebakakasa nti okubalibwa n'okusasulwa kumirimu abaddu jebakola by'amazima, era nga kikwatagana buluungi nesonga lwaki Allah yassa ebitabo, n'atuma ababaka, n'alaalika kubaddu okukkiriza ebyo byonna byebajja nabyo, n'okukolera kubyeteeke kubyo, era n'okulwanyisa ababiwakanya kwatteeke, n'omusaayi gwabwe gukkirizibwa okuyiibwa, n'abakyala babwe, wamu ne maali yabwe bibowebwa (bitwalibwa). Singa tewali kubalibwa wadde okusasulwa, ebyo byonna tebyandibadde n'amakulu, atenga Allah tasobola kulaalika kubanddu be kintu kyonna kitalina makulu. Era Allah yalaza kunsonga eyo n'agamba nti:

قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلْمِ وَمَا كُنَّا

غَائِبِينَ ﴿٧﴾ الأعراف: ٦ - ٧

{Tugenda kubuuliza ddala abo betwatumamu ababaka, era tugenda kubuuliza ddala ababaka (betwabatumira) tugenda kubategeereza ddala byebaakola nga tujja kukumanya ate nga sikuba nti webabikolera tetwaliwo }.

Ekyokusatu: Okukkiriza ejjana n'omuliro okuba nti bwebuddiro obwolubeerera eri ebitonde. Ejjana nyumba yabyengera, Allah yagiteekerateekera abakkiriza abamutya, abakikkiriza ebyo

byeyabalaalikako okukkiriza, nebagondera Allah n'omubaka we, nga bakikola kulwa Allah wamu n'okugoberera enjigiriza ya Nabbi Muhammad (s.a.w). Mujjana mulimu ebyengera ebyenjawulo amaaso gebitalabangako, n'amatu gebitawulirangako, wadde emitima okubirowoozako. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ءُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

البينة: ٧ - ٨

{Mazima abakkiriza nebakola emirimu emiruungi, abo b'ebitonde ebisiinga okubeera ebiruungi, empeera yabwe eri omulezi wabwe (Allah) y'enyumba eyemirembe, balina ejjana eyitibwa Adeni nga wansi waayo wakulukutirayo emigga, bakugibeeramu lubeerera, Allah yabasiima kubo, nabo nebamusiima, ekyonno kiri kubuli yenna eyatya omuleziwe}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ السجدة: ١٧

Era Allah n'agamba

{Teri n'omu amanyi ebyo ebibakwekeddwa mubiruungi ebinji ebyebika ebyenjawulo (ebyabateekerwateekerwa) nga mpeera olwebyo byeb'alinga bakola}.

Ate gwo omuliro, nyumba yabibonerezo, Allah yagiteekerateekera abawakanyi, abalyazamaanyi, abamuwakanya nebajeemera ababaka be, gulimu ebibonerezo ebyenjawulo, ebikakali ennyo omuntu byatayinza n'akulowoozako wadde okuba nti ajja kubiguminkiriza.

Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣﴾ آل عمران: ١٣

{Mutye nnyo omuliro ogwo ogwateekerateekerwa abatakkiriza}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾﴾ **الكهف: ٢**

Era n'agamba: {Mazima ddala ffe twateekerateekera abalyazamaanyi omuliro, bagenda kwetoloozebwo olukomera olwommuliro bwebalisaba okunywesebwa kulwendo lwamazzi, balinywesebwa olweje olubambula ebyenyi, nga luliinga bwolaba ekyuuma ekiteekedwa mumuliro nekyengererera, nga kyakunywa kibi nnyo era nga kifo kibi nnyo kyebagenda okuwummuliramu}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجْدُونَ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ﴿٦٦﴾﴾ **الأحزاب: ٦ - ٦٤**

Era Allah n'agamba: {Mazima Allah yagoba mukusaasira kwe abatakkiriza, n'abateekerateekera omuliro ogwokya ennyo, baakugubeeramu lubeerera, tebageenda kufuna wamukwano wadde omutaasa, olunaku lwebagenda okukyusibwa kyusibwa mumuliro, bajja kulaajana nga bagamba nti nga zitusaanze ffe singa twagondera Allah, netugondera n'omubaka}.

Okukkiriza olunaku lwenkomerero kugoberezebwo, okukkiriza byonna ebibaawo oluvannyuma lwokufa, okugeza nga:

1: ebikemo byomuntaana: nga nabyo byebibuuzo ebibuuzibwa omufu oluvannyuma lwokuziikibwa, abuzibwa ku mulezi we (Allah), neddiini y'Obusiraamu, ne Nabbi Muhammad, naye Allah abalyazaamanyi ababuza, (nebaba nga tebasobola kuddamu bibuuzo bino) abawakanya amateeka ga Allah bajja

kugamba "haah, haah", simanyi, ate omunnanfuusi oba eyali obuusabuusa ajja kugamba " simanyi wabula nawulira abantu bagamba nange nengamba".

Ebibonerezo nebyengera byomuntaana:

Byo ebibonerezo byomuntaana: bajja kugambibwa abalyazaamanyi mubannanfunsi n'abawakanya amateeka ga Allah (abakaafiiri), nga Allah bwe y'agamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ الأنعام: ٩٣

{Singa olaba abalyazamaanyi ng'abali mubukaawu bwokufa, nga bamalayika banjuluzza emikono gyabwe okubajjamu emyoyo gyabwe, nebabagamba (nebabakudaalira) nti mwejje mumbeera eno jemulimu (bwemubanga musobola), olwaleero mugenda kusalulwa ebibonerezo ebyobunyomoofu kwebyo byemwali mwogera ku Allah ebitali bituufu, era nga mwali mwekuluuntaliza kumateekaage}.

Era Allah y'agamba ku falaawo nebanne:

قَالَ تَعَالَى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ غافر: ٤٦

{Buli kunkya neggulo bolesebwa eri omuliro, nekuluku lwenkomerero falaawo nebanne bajja kuyingizibwa mubibonerezo ebyamaanyi ennyo}.

Ate mu shahiih musilim hadith nga eva ku zaid mutabani wa Thaabit (Allah yasiima kuye) nga agijja ku Nabbi (s.a.w) y'agamba nti:

(فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه, ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار, فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر, قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر, قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال, قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال)

(singa sikutya nti muyinza obutaziika bannammwe, nandisabye Allah n'abawuliza kubibonerezo byomuntaana nga nze bwembiwulira, oluvannyuma n'abolekera n'agamba, mwekingirize (musabe) Allah abowonye ebibonerezo by'omuliro, nebagamba: "tusaba Allah atukingiriza ebibonerezo by'omuliro", nagamba: mwekingirize eri Allah ebibonerezo byomuntaana, nebagamba: "tusaba Allah atuwonye ebibonerezo byomuntaana" n'agamba: mwekingirize eri Allah abawonye ebikemo ebyeyolefu mubyo n'ebyekweese, nebagamba: "tusaba Allah atuwonye ebikemo ebyeyolefu mubyo n'ebyekweese", n'agamba: mwekingirize eri Allah ekikemo kya dajjaali, nebagamba: tusaba Allah atukingiriza ekikemo kya dajjaali").

Ate byo ebyengera byo muntaana, by'abakkiriza ab'amazima, Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ فصلت: ٣٠

{Mazima ddala abo abagamba nga bakakasa nti omulezi waffe ye Allah, oluvannyuma nebatamugattako kintu kyonna, Malayika bakka jebali okuva eri Allah mukiseera kyokufa nebabagumya, nebabagamba nti temutya jemugenda teliiyo buzibu era temunakuwala olwebyo byemulese, musanyuke n'ejannah eyo jemwalagaanyisibwa}.

Era Allah n'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصُرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ الواقعة: ٨٣ - ٨٩

{Mulaba mutya mukiseera omwoyo byeguba nga gutuuse muddookooli nga namwe muukiseera ekyo mutunula butunuzi (nga temulina kyakkola) omuntu oyo tuba kumpi nnyo jaali okusinga mwe, naye nga mwe temutulaba, kale bwemuba nga temugenda kuzuukizibwa nga mwe bwemugamba, omwoyo muguzzeemu bwemuba muli b'amazima, naye bwaba nga omufu abadde mubokulusegere lwa Allah agenda kufuna okuwummula nabuli kyonna ekisanyusa omwoyo ge, ne Jannah eyebyengera }.

Hadith nga eva ku barra-a ibn a'zib (Allah yasiima kuye yagamba) nga agijja ku Nabbi (s.a.w) y'agamba kumukkiriza bwayanukula (oboluungi ebibuuzo ebimubuuzibwa) bamalayika ababiri muntaana ye:

(ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي, فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنة, قال فيأتيه من روحها وطيبها, ويفسح له في قبره مد بصره) . رواه أحمد, وأبو داود, في حديث طويل.

(Akowoola omukowooze okuva muggulu nti omuddu wange ayogedde Mazima, mumwalirire mujjana, Era mumwambaze (engoye zomujjana), Era mumuggulire omulyango eri ejjana, n'agamba (Nabbi), obuwewo bwomujjana n'obuwoowo bwayo butaandika okumujjira, Era nagaziyizibwa entaanaye okutuuka amaaso ge wegakoma).

Okukkiriza olunaku lwenkomerero kirina ebibala, nga mubyo mulimu bino wammanga:

Ekisooka: Okwagala okugondera Allah nga okola emirimu emiruungi olwokusuubira empeera y'olunaku lwenkomerero.

Ekyokubiri: Okutya okkola ebikolwa ebyobujeemu n'okubisiima oba okubiwigira nga otya ebibonerezo byolunaku olwo.

Ekyokusatu: Okuddizaawo omukkiriza ebyamuyitako mubulamu bwensi nga aweebwa ebyengera nempeera yolunaku olwo.

Naye bbo abawakanya amateeka ga Allah (abakaafiiri), bawakanya okuzuukira oluvannyuma lwokufa nga bagamba nti ekyo tekisoboka. Wabula endowooza yabwe eyo nfu era ebyawaandibwa ebitukuvu, n'ebirabwako wamu n'amagezi birambika buluungi obufu bwayo.

Allah yagamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

التغابن: ٧

{ Bagamba abo abatakkiriza Allah nti tebageenda kuzuukizibwa, gamba (owange gwe Muhammad) nti sibwe kiri nga bwemugamba mbalayiridde omulezi wange mujja kuzuukizibwa ddala, oluvannyuma mutegeezebwe byemwakola, ate nga ekyo eri Allah kyangu nnyo }.

Era ebitabo byonna ebyassibwa okuva muggulu byegatta nebikakasa okubeerawo kw'olunaku olwo.

Ate byo ebirabwako: Allah yalaga abaddu be okuzuukiza kwabafu kuno kusi era musurat albaqarah mulimu ebyokulabirako bitaano kunsonga eno.

Ekisooka: Abantu ba Nabbi muusa mukiseera bwebaamugamba nti: tetugenda kukkiriza okutuusa nga tulabye ku Allah owekitiibwa n'amaaso gaffe, Allah n'abatta oluvannyuma n'abazuukiza, era kunsonga eyo Allah y'agamba bweyali nga ayogera n'abaana bayisirayiri:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ البقرة: ٥٥ - ٥٦

{Mujjukire mukiseera wemwagambira muusa nti tetujja kukkiriza okutuusa nga tulabye ku Allah n'amaaso gaffe, laddu nebakuba nganamwe mutunula (nemufa) oluvannyuma netubabazuukiza mukufa kwamwe oba olyawo muneebaza}.

Ekyukubiri: Mukyafaayo ky'omusajja eyattibwa abaana bayisirayiri nebeewakana kwani yamusse, Allah n'abalagira basale ente bamale bakubise ennyama yaayo omubirigwe ababuulire ani yamusse. Allah y'agamba kusonga eyo:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهَا ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا أَصْرَبُوهُ بَعْضُهَا
كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ البقرة: ٧٢ - ٧٣

{Mujjukire bwe mwatta omuntu nemumala nemwewakana, nemukaayagana kukuttibwa kwe, naye Allah w'akwolesa ekyo kyemwali mukweka, netubagamba musale ente bwemumala muddire ebimu kubituntu byayo mubikubise kukimu kukitundu kyonna kumubirigwe ababuulire ani ayamusse, bwatyo Allah bwazuukiza abafu, era abalaga obumu kububonero bwe mulyoke mutegeere}.

Ekyokusatu: Ekyafaayo ky'abantu abaafuluma munyumba zabwe nga badduka okufa, nga bali munkumi nankumi, Allah n'abatta oluvannyuma n'abazuukiza. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

البقرة: ٢٤٣ ﴿

{ Abaffe tolaba abo abaafuluma mumayumba gabwe nga bali nkumi nankumi ngabadduka okufa, Allah n'abatta ate oluvannyuma n'abazuukiza, Mazima Allah awa abantu ebiruungi naye abantu abasinga obuungi tebeebaza }.

Ekyokuna: Ekyafaayo ky'omuntu eyayita kukyalo nga kifudde kyonna kiwedde (Abantu n'ebintu byonna nga bisaanyewo) n'alaba nga kiri wala nnyo Allah okukizzawo, Allah n'amutta okumala emyaka kikumi (100) oluvannyuma n'amuzuukiza. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٨ - ٢٥٩﴾

{ Oba tolaba oyo eyayita kukyalo kyonna nga kisaanyewo (nga kifudde), n'agamba nti kino Allah ayinza atya okukizzaawo oluvannyuma lwokuba nga kifudde, Allah n'amutta okumala emyaka kikumi, n'oluvannyuma na'muzuukiza, n'amubuuza omaze banga ki ng'ofudde?, n'agamba nti maze lunaku lumu oba kitundu kyalunaku, Allah n'amugamba nti omaze emyaka kikumi, tunulako kubyokulya byo n'ekubyokunya byo tebinnaba kwonooneka era otunule eri endogoyi yo, era tugenda kufuula akabonero (akokulabirako) eri abantu, Era tunula eri amagumba engeri jetugagattamu oluvannyuma netugambazaako ennyama,

bweyamala okulaba ebyo n'amaaso ge y'agamba: ntegedde era nkakasizza nti Allah alina obuyinza }.

Ekyokutaano: Ekyafaayo kya Nabbi Ibrahiim (mukwano gwa Allah), bweyasaba Allah amulage butya bwazuukiza abafu? Allah n'amulagira asale ebinyonyi bina abisalesale, addire ebindu byabyo abigabanye kunsozi ezimuli okumpi, oluvannyuma abikowoole, ebitundu byeyasazesaze bijja kuddawo bitandike okujja eri Ibrahiim nga bitambula. Allah y'agamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمَ تُوْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٥٨﴾ البقرة: ٢٥٨ - ٢٦٠

{Jukira Ibrahiim (a.s.w) bweyasaba Allah amulage butya bw'azuukiza abafu, Allah yamubuuza nti: abaffe tokkiriza? Ibrahiim n'addamu nti: nzikkiriza mukamawange, naye mbadde njagala omutima gwange gutebeenkere, Allah n'amugamba asale ebinyonyi bina abikutulemu ebitundu tundu (ebifi) oluvannyuma ebifi ebyo abigabanye kunsozi ezimulinaanye, bwomaliriza abikowoole bijja kujja gyali nga byanguwa, Omanyen nti Mazima Allah yewekitiibwa era ateeska buli kintu mukifo kyakyo }.

Ate obujulizi obwamagezi buli mumbeera yamirundi ebiri:

Esooka: Mazima Allah yatonda eggulu nensi nabuli kintu kyonna ekirimu nga tebyaliwo, kati oyo asobola okutandika okutonda ebitonde, tayinza kulemererwa kubizzawo, Allah y'gamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ ﴿٢٧﴾ الروم:

{Era yooyo (Allah) eyatandika okutonda (ebitonde) ate oluvannyuma (Iwokufa) ajja kubizzaawo, era nga ekyo kitono nnyo gyaali }.

قَالَ تَعَالَى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)

Era n'agamba:

{Nga byetwatandika okutonda okwasooka, bwetugenda okubazzayo, tubalagaanyisizza endagaano nga okujituukiriza kuli kuffe, era nga tulina obusobozi kukyonna kyetuba twagadde okkola }.

Era Allah n'agamba bweyali nga ayanukula abo abaali bawakanya okuzzibwawo kwamagumba oluvannyuma lwokumerenguka:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (يس: ٧٩)

{Gamba (owange gwe Muhammad) nti ajja kugazzaawo (amagumba) oyo eyagatonda omulundi ogwasooka, era nga buli kutonda kwonna mumanyi }.

Eyokubiri: Mazima ensi esobola okukala yonna negwaawo nebeera nga telinaamu wadde omuti ogwakiragala, Allah natonnyesa enkuba neguddawo negulamuka, kati oyo Allah asobola okuguzzawo n'aguwa obulamu oluvannyuma lwokubanga gubadde mufu, asobola okuzuukiza abafu. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي

أَحْيَاهَا لَمَحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فصلت: ٣٩)

{N'obumu kububonero bwe obulaga okubaawo kwe, kwekuba nga olaba ensi nga ekaze, naye bwetugitonyesaako enkuba, etiba neyeyongera okumera, Mazima oyo agiwadde obulamu, era yazuukiza abafu, era nga kubuli kintu kyonna muyinza }.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ ﴾ ق: ٩ - ١

Era Allah n'agamba:

{Netutonnyesa enkuba eyomukisa okuva waggulu, netumeza nayo amalimiro n'ebimera ebyempeke ezikungulwa n'emitende emiwaanvu egijjuddeko ebibala ebingi, nga kugabirira eri abaddu bange, era netulamusa nayo (enkuba) ettaka ekkalu nabwekutyo bwekugenda okubeera okuzuukira okuva muntaana}.

Wabula waliwo abaabula, nebawakanya ebibonerezo byomuntaana n'ebyegeera byayo, ngabanba nti ekyo tekisoboka kubanga kyawukana nebyo ebirabwako, era nti singa obikkula kumufu nga alimuntaana ye osanga nti alinga bweyabadde nga talina kyakyuseeko, nga n'entaana teyeeyongeddeeko mubunene oba okufunda.

Endowooza eyo nkyamu kubanga eyawukana n'obujulizi obuli mu Qura'n, ne hadith za Nabbi (s.a.w) n'amagezi, wamu nebyo ebirabwako.

Bwo obujulizi okuva mu Qura'n, twabulabye mukukkiriza kwokubaawo kwolunaku lwenkomerero. (Kulupapula no.53)

Ate obujulizi okuva mu hadith: hadith nga eri muswahiih bukhaar, nga eva ku ibn abaasi (Allah yasiima kubo), yagamba: (Nabbi (s.a.w) yafuluma n'agenda kuzimu kunjegoyego zekibuga Madiinah, nawullira amaloboozi ga'bantu babiri nga babonerezebwa muntaana zabwe) nayogera hadith, ngamulimu nti: (" naye omu kubo yali teyeewala musulo gwe nga amala ekyetaago kye, ate omulala yali atambuza olugambo wakati w'abantu).

Ate obujulizi bwebyo ebirabwako: Mazima omuntu bwabanga yebase, asobola okulaba ng'ali mukifo ekyagaagavu mubyengera yeyagala, oba okulaba ng'ali mukifo kifunda nnyo nga awuubadde alumizibwa, era oluusi ayinza okusisimuka mwebyo byabadde alaba ng'ali kubuliri bwe, mukisenge kye. Okwebaka muganda wakufa era yensonga lwaki Allah yakuyita kufa bweyagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ﴾ الزمر: ٤٢

{Allah afiisa emyoyo ekiseera kyagyo bwekiba nga kituuse (okufa okunene), negyo egitannaba kutuukibwako kiseera kyagyo mukwebaka kwagyo (okufa okutono), naye egyo egituukidwako ekiseera kyagyo nagikwatirayo (natajizza ngulu) emirala n'agita okutuusa lwegirimalako ekiseera kyagyo ekyagigerekerwa}.

ate obujulizi bwamagezi; Mazima omuntu bwaba nga yebase ayinza okulaba ekirooto eky'amazima nga kikwatagana buluungi nebiriwo ebirabwako, okugeza ayinza okulaba Nabbi (s.a.w) mukifaananyi kyennyni kyeyalimu, ate nga tukimanyi nti oyo yenna ab'alabye Nabbi mukifaananyi kye aba amulabidde ddala, songa ate yeebase mukisenge kye kubuliri bwe nga ali wala nyo nebyalabye mukirooto. Kati bwekiba nga ekyo kisoboka mumbeera yaffe wano kuni, butya bwekitasoboka kubeerawo kunkomerero?

Ate kwo okwekwasa kwabwe nti singa tubikkula kumufu muntaana ye tusobola okumusanga nga takyuseeko (nga alinga bweyaziikibwa), wadde entaana ye okweyongereako oba okufunda. Ekyo kyanukulwa mumbeera zanjawulo:

Esooka: Okukimanya nti tetukkirizibwa kukontanya busiraamu kyebwajja naky'o nebyo ebibuzaabuza, songa singa omuntu

afumintiriza buluungi asobola okulaba obukyamu obuli mwebyo ebiri ebweeru wObusiraamu.

Eyokubiri: Mazima embeera zomuntaana kimu kubintu Allah bweyesigaliza okubimanya, Era nga abantu tebasobola kubimanya, Era tuba kubanga tusobola okumanya ebifa muntaana, amakulu gokukkiriza ebyekweese tegandibaddewo. N'abakkiriza bandibadde benkanankana mukukkiriza n'okukakasa ebyekweese.

Eyokusatu: Ebibonerezo byomuntaana, ebyengera byayo, n'okugaziwa kwayo wamu n'okufunda kwayo, omufu yasobola okubimanya sossi akyali omulamu, nga omuntu eyeebase kwasobola okulaba nga ali mukifo ekigazi oba ekifunda enyo, songa ate munne gwali naye mukisenge, kubuliri bwebumu mubulanganti emu, talina kyalaba kikyuseeko. Era bwatyo ne Nabbi (s.a.w) obubaka bwamukkanga ko songa ate baswahaba tebaawuliranga bimugambibwa, ate olunsi Malayika yajjiranga mukifaananyi kyomuntu n'ayogera ne Nabbi, naye nga baswahaba bbo tebalaba Malayika wadde okuwulira byayogera.

Eyokuna: Mazima okumanya kwebitonde kugere okusiinziira nga Allah bweyayagala, era tebisobola kumanya buli kiriwo. Eggulu omusaavu, nensi nabulimu kimu ekirimu kitendereza Allah mubutuufu byokumutendereza, naye Allah awulizaako mubitonde bye gwaba ayagadde olwolumu. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ الإِسْرَاءُ: ٤٤

{Atenderezebwa Allah bulikimu kyonna ekiri muggulu nemunsi, Era tewali kintu kyonna okujjako nga kitendereza amatendo ge newankubadde nga temutegeera kutendereza kwabyo}.

Nabwekityo sitaani namageege (amajinni) biwulira buli kimu ekijja nekiva munsi, Era lumu amajinni gajja ewali Nabbi

(s.a.w) negawuliriza nga asoma Qura'n negajekkaanya bwegamaliriza gaddayo eri gannaago nga matiisa Era amabuulirize, newankubadde bwegutyo bweguli ate ffe tetugalaba, Era kunsonga eyo Allah owekitiibwa yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْنِيئَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَرْتَهُمَا إِنَّهُ يُرِيدُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ الأعراف: ٢٧

{Abange mwe abaana b'adam, tababusabuzaanga sitaani, nga bweyabuzabuuza bakadde bamwe (adam ne hawa) nabajja mu janna nga abambudde ebyambalo byabwe alyoke abalage ensonyi zabwe, Mazima ddala ye nejjeerye (mumajinni) babalaba songa ate mwe temubalaba, Mazima twafuula zisitaani, mikwaano gyabo abatakkiriza nga kibonerezo gyebali}.

Kati bwekiba nga ebitonde tebiraba buli kimu ekiriwo, tetukkirizibwa kuwakanya kubaawo kwebyo ebyakakasibwa nti jebiri mubitalabika newankubadde nga ffe tetubiraba.

OMUSINGI OGWOMUKAAGA: OKUKKIRIZA OKUGERA KWA ALLAH.

Okugera kwa Allah kwekusalawo kwe eri ebitonde, okusinziira nga bwekwakulembere okumanya kwe, Era nga kukwatagana nebigendererwa bye.

Okukikiriza okugera kuzingiramu ebintu bina:

Ekisooka: okukkiriza nti Allah yamanya buli kintu kyonna mubufunze nemubulambulukufu byakyo, okuva edda nedda, sinsonga obanga ekyo kikwatagana kubikolwa bye, oba kubikorwa bya baddu be.

Ekyokubiri: okukkiriza nti Allah ekyo yakiwandika ku lubaawo olukuumibwa (lawuhu mahfuudh). Era kunsonga zino zombiriri Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ **الحج: ٧٠**

{Abaffe tomanyi nti Allah amanyi byonna ebiri muggulu ne munsu, Mazima ebyo byonna biri mukitabo (biwandiike), Era nga Mazima ddala eri Allah ekyo kangu nyo}.

Ate muswahiih musirimu, hadith nga eva ku abudallah ibn amr ibn a'si (Allah yasiima kubo), yagamba nti: nawulira omubaka wa Allah (s.a.w) nga agamba nti:" Allah yawandiika okugera kwebitonde emyaka emitwaalo etaano nga tannaba okutonda ggulu nensi).

Ekyokusatu: okukkiriza nti byonna ebigwawo munsu bigwawo lwakwagala kwa Allah, sisonga oba bikwata kubikolwa bye oba kubikolwa byebitonde, Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ **القصاص: ٦٨**

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ **إبراهيم: ٢٧**

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ **آل عمران: ٦**

{N'omulezi (Allah) atonda nga bwaba ayagadde era n'alonda oyo gwaba ayagadde }

Era n'agamba: {Era Allah akola kyonna kyaba ayagadde}.

Era n'agamba: {Yooyo abatonda munnabaana zabannyamwe nga bwab'ayagadde}.

Era Allah n'agamba kubikwatagana nebikolwa byebitonde:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَاطَهُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقْنَاوَكُمْ﴾ **النساء: ٩٠**

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ الأنعام: ١٣٧

{Singa Allah yayagala yandibabateeredde nebabalwanyisa}.

Era n'agamba: {Singa Allah yayagala tebandikikoze baleke n'okutemerera kwabe ku Allah kubanga ekyo kikosa bbo.}.

Ekyokuna: okukkiriza nti byonna ebiriwo (muggulu omusanvu ne munsu) mubwennyini bwabyo nebitendo byabyo nokwenyenya kwabyo Allah yeyabitonda. Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ الزمر: ٦٢

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ الفرقان: ٢

{Allah yemutonzi wabuli kintu kyonna era yemmukuumi kubuli kintu kyonna}.

Era Allah n'agamba: {Era y'atonda buli kintu kyonna era n'akiteekateeka oluteekateeka}.

Era Allah n'agamba ku Nabbi Ibrahiim (s.a.w), nti y'agamba abantu be:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ الصافات: ٩٦

{Era Allah yeyabatonda nebyemukola}.

Wabula okukkiriza okugera kwa Allah mumbeera jekunyonyoddwamu tekugaana bantu kuba nakwagala kwabwe kubikolwa byabwe, oba okwesalirawo kubyebakola n'obusobozi kubyo. Kubanga Obusiraamu nebyo byetulabako bitulaga buluungi nga omuntu okuba n'obusobozi kubyo.

Allah y'agamba kukwagala kwomuntu:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَا﴾ النبأ: ٣٩

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتُوا حَرِّكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣

وقال في القدرة: ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ (١٦) التغابن: ١٦

وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٢٨٦) البقرة: ٢٨٦

{Oyo yenna ayagala (okusisiinkana Allah) atekewo ekkubo erinamutuusa jaali ng'amusiimeye (emirimu emiruungi)}

Era nagamba: {Mugende eri ennimiro zamwe (bakyala bamwe) nga bwemuba mwagala}.

Ate Allah n'agamba kubusobozi bw'omuntu: {Mutye Allah nga bwemuba musobodde, mube bawulize era bagonvu eri ebiragiyo bya mukama wammwe}.

Era n'agamba {Allah talagira mwoyo okujjako ekyo kyegusobola, gujja kusalwa ekiruungi kyegwakola era guvunaanibye ekibi kyegwakola}.

Ate obujulizi mubirwabwako: Mazima buli muntu amanyi nti alina obusobozi kukusalawo byakola nebyalekayo okkola okusiinziira kukusalawo kwe, nga okutambula, nebyo ebituukawo nga tebiri mukwagala kwe nga okukankana, okwesisiwala, naye era tulina okumanya nti okwagala, n'okusawo, wamu n'obusobozi bwabantu byonna bulina kugoberera kusalawo kwa Allah. Kubanga Allah y'agamba:

قال تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩) التكويد: ٢٨ - ٢٩

{Eri oyo yenna mumwe ayagala okutereera (kukkubo eggolokofu) ate nga temuyinza kwagala nakusalawo okujjako nga Allah ayagadde, Omulezi webitonde byonna}.

Ate era olwokuba nti eggulu nensi byonna bwakabaka bwa Allah, tewali ayinza kukolera kintu kyonna mubwakabaka bwe nga Allah tamanyi oba okwagala kibeewo.

Era okukkiriza okugera kwa Allah mumbeera eyogeddwako waggulu, tekuwa muntu kisonyiwo kwebyo byaba alese mubyamulalikwako natabikola, oba okkola ebyonoono, nolwekyo okujuliza okugera mukuleka byolina okkola oba okkola byotalina kkola sikituufu olwensonga zino wammanga:

Esooka: Allah y'agamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ الأنعام: ١٤٨

{Bajjakugamba abo abagatta ku Allah ebintu ebirala, nti singa Allah yayagala tetwandimugasseeko kintu kirala kyonna, wadde bakadde baffe, Era tetwandifudde kintu kyonna kyamuzizo, bwebatyo n'abasooka bwebaalimba, okutuusa bwebaakomba kubibonerezo byaffe, gamba (owange Muhammad) nti abaffe mulina okukumanya kwonna mukutujjireyo ko, temulina kyemugoberela okujjako endowooza zamwe, Era temulina kyemuli mwe okujjako abogera ebyobulimba ku Allah}.

Baba kubanga okwekwasa kwabwe n'okugera kwa Allah kutuufu tebandikombezeddwa kubibonerezo bya Allah.

Eyokubiri: Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ النساء: ١٦٥

{Babaka nga basanyusa era nga batiisa abantu baleme kyebekwasa eri Allah oluvannyuma (Iwokujja) kwababaka, Allah okuva edda nedda wakitiibwa owamagezi (ateeka buli kintu mukifo kyakyo)}.

Eyokusatu: hadith eri mu swahih bukhari ne musirimu, nga eva ku Ali ibn abi twalib (Allah yasiima kuye) nga agijja ku Nabbi (s.a.w) yagamba:

" ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا تعملوا فكل ميسر " ثم قرأ " فأما من أعطى واتقى. وفي لفظ " فكل ميسر لما خلق له."

(Tewali n'omu mumwe okujjako nga yatekerwa tekerwa ekifo kye mumuliro oba mujjana, n'abuuza omusajja mubantu ab'aliwo nti kati tulekeyo okkola twesigamire kyekyo ekyatugerekerwa? namugamba nti: nedda, wabula mukole buli omu wakwanguyirizibwa," oluvannyuma nasoma {wabula oyo yenna awaayo ebyo ebimuvunaanyizibwako mumabanja ga Allah, era n'atya buli kyonna ekimunyiza}. munjogera ya hadith endala " buli omu wakwanguyirizibwa ekyo ekyamutonderwa").

Bwatyo Nabbi (s.a.w) n'alagira okukola nagaana okwekwasa okugera kwa Allah.

Eyokuna: Mazima ddala Allah yalagira abantu (byebalina okkola) ate nabagaana (byebatalina kkola). Era talina kyeyabalaalika kkola okujjako nga kiri mubusobozi bwabwe, nga Allah bwagamba mu Qura'n:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۗ ﴾ (التغابن: ١٦)

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾ (البقرة: ٢٨٦)

{Mutye Allah nga bwemusobola}

Era n'agamba: {Allah talaalika kumyoyookujjako ekyo kyegusobola}. Nabwekityo omuntu abakuba nga akakibwa bukakibwa byakola, yandibadde nga yalagirwa okkola kyatalinaako busobozi, ate nga ekyo kikyamu, kubanga bwagwa munsobi mubutanwa oba nga yelabidde, oba nga akakkiddwa bukakibwa, talina musango kuba alina ekimusonyiyisa.

Eyokutaano: Mazima okugera kwa Allah, kyama kye yakesigaliza tewali akimanyi okujjako nga kimaze kutuukawo, are okwagala kyomuntu kwebyo byakola kwekukulemba ebikolwa bye, nekiba nti okwagalakwe okkola kyayagala tekuzimbidwa kukumanya kuva muye olwokwagala kwa Allah, nabwekityo okwekwasa kyomuntu kukugera kwa Allah kuvaawo kubanga omuntu talina kwekwasa kwebyo batamanyi.

Eyomukaaga: Mazima ddala tulaba omuntu nga afaayo nnyo kwekyo kyayagala mubintu bye duniya (ensi) okutuusa lwakituukako, Era takivaako nga tannakifuna okujjako ekyo Allah kyeyagera nti talikifuna, kati lwaki aleka ebinamugasa mu bya akhirat (enkomerero) nakola ebigenda ommukosa nga yekwasa nti Allah bwatyo bweyamugerEra, omulyango gwensonga zombiri sigwegumu?.

Ekyolabiko mukutaangaaza obuluungi ensonga eno; singa omuntu aba alina amakubo abiri, erimu kugo nga limutuusa kukyalo nga kirimu obuvuyo, ekitta bantu, obunyazi, okunyakula, nokutya okunji, wamu nenjala kakkunsi, ate nga elyokubiri limutuusa kukyalo nga kiteeketeke buluungi, mulimu emirembe, kitebenkevu, nga nobulamu bwamu buluungi, nokuwa ekitiibwa eri obulamu bwabantu, kugombi ayinza kukwta liriwa?.

Mazima era akwata kubo lyakubiri erimutuusa kukyalo ekirimu emirembe, Era nga tekisoboka eri buli ategeera kukwata kubo limutuusa kukyalo kirimu buvuyo nekitta bantu, neyekwasa okugera kya Allah, kati lwaki omuntu kunsonga za akhira akwata ekkubo erimutwala mumuliro nga yekwasa okugera kwa Allah?

Ekyokulabirako Ekyokubiri: tulaba omulwadde alagirwa okumira eddagala naye nga talyagala, Era nebamugaana okulya ebintu ebimukosa nabirekayo newankubadde nga omutima gwe gubyagala nyo, olwokuba ayagala emirembe nokussuka obuluungi, Era tasobola kugaana kunywa dagala, oba okulya

emmere emukosa, nga yekwasa okugera kwa Allah, kati lwaki omuntu aleka Allah byeyamugamba okkola n'omubaka we, oba n'akola ebyo Allah byeyamugaana n'omubaka we, oluvannyuma neyeekwasa okugera kwa Allah?.

Eyomusaanvu: Mazima ddala omuntu eyeekwasa okugera kwa Allah, kukulekayo ebyo Allah byeyamulagira okkola, (ebyamulalikwako), oba okkola ebyonoono, singa omuntu omulala amukolako obulyazaamaanyi, n'atwala ebyobugagga bye, oba n'alinyirira eddemberwe, oluvannyuma neyeekwasa okugera kwa Allah, tayinza kukkiiriza nsonga ye, kati lwaki takkiriza kwekwasa kwakugera kwa Allah mukumukolako obulyazaamaanyi, ate ye neyeekwasa okugera kwa Allah mukukola obulyazaamaanya ku Allah?.

Era kigambibwa nti amiir wabakkiriza umar ibn khattab (Allah yasiima kuye) bamuletera omusajja nga abye asaanira kutemako mukono, umar nalagira bamutemeko omukono, omusajja kyava agamba nti lindako sebo amiir, Mazima nabbye naye kulwakugera kya Allah, Umar n'agamba: naffe tukutemeko omukono kulwakugera kwa Allah.

Okukkiriza okugera kwa Allah kulina ebibala bino wammanga:

Ekisooka: Okwesigamira Allah mukuteekawo amakubo, kisobole okkuyamba obutesigamira makubo gokka nga olina kyoyagala okkola, kubanga buli kintu kyonna kiriwo kulwakugera kwa Allah.

Ekyokubiri: Omuntu obuteetwala nti wakitalo nnyo singa aba atuuse kubiruubirirwa bye, kubanga okubituuka ko kyengera okuva eri Allah, olwokumugerera ekkubo eddungi, nokuyitamu obuluungi, kati singa yeelaba nga wakitalo nyo kiyinza okumwerabiza okwebaza Allah.

Ekyokusatu: Obutebenkevu, neddembe mumutima mwebyo byonna byayitamu mukugera kwa Allah, era teyeemalaamu olwokuyitibwako byayagala oba okufuna byatamwa, kubanga okwo kwonna kugera kwa Allah oyo alina obwakabaka muggulu nemunsi, Allah yagamba kunsonga eyo:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ **الحديد: ٢٢ - ٢٣**

{Tewali buzibu bwonna butuukawo munsi, wadde kummwe mwennyini okujjako nga bwawandikiikibwa mukitabo oluberyeberye nga tetunnaba kutonda nsi mazima ddala ekyo ku Allah kyangu nnyo, Mulwoke muleme kunakuwala kwebyo ebiba bibayiseeko era muleme kweyagala nakwekuza olwebyo byeyabawa, Allah tayagala yenna eyeyagala neyekuza }.

Era bwekityo Nabbi (s.a.w) yagamba:

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " رواه مسلم.

(Embeera zomukkiriza zewunyisa, kuba buli kimu gyali kiruungi, ate ekyo tekiri okujjako kumukkiriza, bwafuna ekiruungi yebaza "Allah" nekiba nga kiruungi gyali, ate bwatuukibwako obuzibu aguminkiriza, nekiba nga kiruungi gyali). Hadith yayogerwa musirimu.

Waliwo ebibinja bibiri ebyabula kukugera kwa Allah:

Ekisooka: al jabariya, abagamba nti Mazima ddala omuntu akakibwa bukakwibwa emirimu jakola, era talina busobozi nakwagalakwe.

Ekyokubiri: al qadariyya, abagamba nti omuntu yemalirira mubyakola, alina okwagala n'obusobozi bwe, sossi lwakugera nakwagala kwa Allah.

Okuddamu eri ekibinja Ekisooka (al jabariyya). Nga obujulizi buva mu Qura'n nemubiriwo ebirabwako.

Okuva mu Qura'n; Mazima ddala Allah yakakasa kumuntu okwagala, n'okwesalirawo kyakola, era nagatta okkola omulimu gyali bweyamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ ﴾ آل عمران: ١٥٢

{Mumwe mulimu ayagala ensi era nemumwe mulimu ayagala enkomerero}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا ۗ ﴾ الكهف: ٢٩

Era n'agamba: {Gamba (owange gwe Muhammad) nti byembagamba gemazima agava eri omulezi wammwe, kisigadde jemuli okwesalilawo ayagala akkirize, n'ayagala awakanye, Mazima ddala twategekera abalyazaamaanyi omuliro bagenda kwetololezebwo olukomera lwomumliro}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۗ ﴾ فصلت: ٤٦

Era n'agamba: {Oyo yenna akola ekiruungi kyonna kigasa myoyo gwe, nabuli yenna ayonoona, okwonoona okwo kuli kuye, Era omuleziwo (Allah) tabangako mulyazamaanyi eri abaddu}.

Ate mubiriwo ebirabwako: Mazima ddala buli muntu amanyi buluungi enjawulo eri wakati webikolwabye byakola ebyakyeyagalire, n'okwagalakwe, okugeza nga okulya,

okunywa, okugula, okutuunda, nebyo ebimutuukako nga teyeeyagalidde nga okukankana singa abadde n'omusujja, oba okuva waggulu n'agwa. Omuntu mubikolwa (ebyakyeyagalire) abikola nga yasazeewo nokwagala kwe Era nga takakiddwa nakamu, ate ebitali byateyagalidde, bimutuukako nga siyasazeewo Era silwakwagala kwe.

Ate okuddamu eri ekinja Ekyokubiri (al qadariyya), nakwo kwamirundi ebiri, mu Qura'n nemumagezi:

Mu Qura'n, Mazima ddala Allah owekitiibwa yemutonzi wabuli kimu, Era buli kyonna ekiriwo kiriwo lwakwagala kwe, Era Allah yanyonnyola buluungio mukitabo ke (Qura'n), nti ebikolwa byomuntu bibaawo lwakwagala kwe, bweyagamba nti:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
 اٰخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾
 البقرة: ٢٥٣

{Singa Allah yayagala tebandirwanaganye abo abajja oluvannyuma lwabwe, oluvannyuma lwobunyonyofu okubajjira, naye baayawukana, mubo mulimu abakkiriza, Era mulimu nabaawakanya Singa Allah yayagala tebandirwanaganye, naye Allah akola ekyo kyaba ayagadde mubufuzi bwe}.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ السجدة: ١٣

{Singa twayagala buli mwooyo twandiguwadde obulungamu bwagwo, naye ekigambo kyakata okuva munze (Allah) nti njakujjuza omuliro okuva mumajjini nemubantu bonna}.

Ate okuddamu okwamagezi: tukimanyi buluungi nti ensi eno yonna nebigirimu Allah yagifuga, ate n'omuntu ali munsu, nolweekyo naye afugibwa Allah, atenga tekisoboka afugibwa

okweyisanga bwaba alabye mubufuzi bwamukamaawe okujjako nga omukkiriza (mukamaawe), Era nga ayagadde.

EBIGENDERERWA BY'ENZIKIRIZA Y'OBUSIRAAMU.

Ebigendererwa byenzikiriza y'obusiramu, byebintu Obusiraamu byebuluubirwa okutuukako, Era nga bufaayo nyo okubyeekwatako, Era nga biri mubiti nemitendera ejenjawulo, mubyo mulimu bino wammanga:

Ekisooka: Okkola omulimu gwonna kulwa Allah, nokumusinza; kubanga yemutonzi, talina kimwegattako, nekibanga kyatteeka okuba nga yasinzibwa yekka.

Ekyokubiri: Okununula amagezi, nendowooza zaffe okuva mubuvuyo obuva mukuba nti omutima teguliimu nzikiriza eno (eyObusiraamu), kubanga oyo yenna atalina nzikiriza eno mukifuba kye, abeera nga omutima gwe mukalu Era mwereere teguliimu nzikiriza ntuufu oba okubanga abbinkidde mububuze obwenzikiriza empangirire obupangirizi.

Ekyokusatu: Okuwummula n'obutebenkevu bwomutima nebirowoozo, omuntu alina enzikiriza eno taba nakwEraliikirira mumutima gwe, wadde okulabaankana mundowooza, kubanga enzikiriza eno egatta wakati womukkiriza nomutoziwe Allah, nabanga amasiima okubanga yemulezi we, yamuteekErateekEra obulamu bwe, yamuteerawo amateeka agamufuga n'okumulamula, olwo omutima gwe neguba mutebeenkevu kwebyo byaba amugeredde, Era ekifuba kye nekiba kyanjulukufu eri Obusiraamu nga tasobola kubuwanyisaamu kintu nakirala kyonna.

Ekyokuna: Okuba nebigenderwa ebituufu, nemirimu emiruungi ebitali bipaangirire mukusinja Allah owekitiibwa oba munkolagana wakati wo nebitonde, kubanga egimu kumisingi gyaayo (enzikiriza y'Obusiraamu), okukkiriza ababaka nga kuzingiramu okugoberera ekkubo lyabwe eriyina ebigendererwa ebituufu nemirimu emiruungi.

Ekyokutaano: Obuvumu n'obunyinkivu mukkola emirimu emiruungi, kikusobozese okuba nti tewali kakisa konna kakkola murimu muruungi okujjako nga okakozesa nga osuubira empeera ennuungi ewa Allah, Era nga tewali mbeera yonna yakujeemera Allah okujjako nga ojesamba, kubanga egimu kumisingi jenzikiriza eno, okukkiriza okuzuukira, nokubalibwa kwemirimu. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ **الأَنْعَام:**

١٣٢

{Buli omu mubo alina empeera mwebyo byebaakola, Mukamaawo simugayaavu kwebyo byebakola agenda kusasula buli omu okusiinziira nga bweyakola}.

Ne Nabbi (s.a.w) yakubirizaanga nyo abagoberezibe ensonga eno nagamba nti:

"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, إحرص على ما ينفعك واستعن بالله, ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان " رواه مسلم.

(Omukkiriza owamaanyi yasinga obuluungi, n'okwagalwa ewa Allah kumukkiriza omunafu, naye bonna balimu obuluungi, gezaako nyo okkola ebikugasa osabe ne Allah okkuyamba tokkirizanga okulemererwa, bwobanga olina ekikutuuseeko togamaba nga singa nakoze bwenti kyandibadde bwekiti n'ebwekiti, wabula gamba nti okwo kugera kwe Allah

n'akuteekateeka kwe, era akola kyaba ayagadde, kubanga mazima ekigambo "singa" kiggulawo emirimu gyasitaani).

Ekyomukaaga: Okuteekawo ekibiina ekyaamaanyi, ekiwaayo buli kyekirina okuyimirizaawo Eddini y'akyo, n'okunyweza empagi zaayo, nga tebafuddeeyo kubibatuukako mukukubo eryo. Allah y'agamba kunsonga eyo:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ **الحجرات: ١٥**

{Mazima ddala Abakkiriza beebo abakkiriza Allah n'omubaka we, oluvannyuma tebakafuna kubuusabuusa, nebalwaana mukukubo lya Allah nemmaali yabwe nabo bennyini abonno bebakkiriza ab'amazima }.

Ekyomusaanvu: Okutuuka kukwesiima munsu nekunkomerero, nga eyita mukuloongosa embeera y'abantu kina kimu n'abali awamu, nokufuna empeera yabo abasembezebwa. Allah yagamba:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ **النحل: ٩٧**

{Oyo yenna Akola omulimu gwonna omuruungi, mubasajja oba mubakyala, nga naye mukkiriza, Tujja kumuwangaaza omubulamu obuluungi, era tujja kubasasula empeera yabwe kwebyo ebisinga obuluungi byebaali bakola (nga tubakubisirizaamu)}.

Ebyo byebimu kubigendererwa byenzikiriza y'obusiraamu, Tusaba Allah atusobozese okubituukiriza wamu nabasiraamu bonna ameena.

